

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DATA ENTERED

مستند ولی عہدی

مترتبہ  
محمد ادریس ہاشمی ایم۔ اے

ناشر

مکتبہ بریاد کار معاویہ

بھوک مدینہ، المدد پاک کالونی، ای۔ سی۔ روڈ، لاہور

۲۹۷۶۹

۳۲۲

25716

مارچ ۱۹۸۶ء

ایک ہزار

ار روپے

مکتبہ یادگار معاویہ  
حصہ پرنٹنگ بجنی

بار اول

تعداد

قیمت

ناشر

مطبوعہ

طمنہ کاپیہ

مکتبہ یادگار معاویہ، چوک مدینہ المدنیہ، کالونی

عقب میرا کیتٹ راوی روڈ، مالابھور، نگرہ

# فہرست مضامین

| صفحہ نمبر | عنوانات                          | نمبر شمار |
|-----------|----------------------------------|-----------|
| ۱         | سبب تالیف                        | ۱         |
| ۵         | تفاریخ                           | ۲         |
| ۱۵        | السید حکیم دین عالم صدیقی        | ۳         |
| ۱۴        | السید مولانا محمد سرور صاحب شفیق | ۴         |
| ۲۸        | السید مولانا حسن محمد صاحب       | ۵         |
| ۲۵        | السید عبدالستار انصاری۔ لکھنؤ    | ۶         |
| ۳۵        | عرض مؤلف                         | ۷         |
| ۳۴        | پہلا باب                         | ۸         |
| ۳۸        | نظام خلافت                       | ۹         |
| ۳۶        | الفصل اول خلافت                  | ۱۰        |
| ۵۴        | اجتماع بقیۃ بنو ساعدہ            | ۱۱        |
| ۵۳        | اجتماع بیت فاطمہ                 | ۱۲        |
| ۵۰        | طبری رقمطراز ہے۔                 | ۱۳        |
| ۵۱        | خلافت ثانی۔ نامزدگی              | ۱۴        |
| ۵۲        | امامت ثالث                       | ۱۵        |
| ۵۸        | خلافت چہارم                      | ۱۶        |

| صفحہ نمبر | عنوانات                         | نمبر شمار |
|-----------|---------------------------------|-----------|
| ۶۴        | خلافت پنجم                      | ۱۷        |
| ۷۴        | علامہ باقر مجلسی گواہ ہے        | ۱۸        |
|           | دوسرا باب                       | ۱۹        |
| ۸۲        | کردار امیر المؤمنین یزیدؑ       | ۱۹        |
| ۸۲        | امیر المجاہدین                  | ۲۰        |
| ۸۵        | طبری رقمطراز ہے                 | ۲۱        |
| ۸۶        | حسینؑ شکر یزیدؑ میں             | ۲۲        |
| ۸۷        | جس امیر علیؑ تکھتے ہیں          | ۲۳        |
| ۸۷        | تاریخ مسلمانان عالم             | ۲۴        |
| ۸۸        | فضیلت جہاد                      | ۲۵        |
| ۹۰        | فضیلت مجاہد                     | ۲۶        |
| ۹۱        | احادیث رسول کی روشنی میں        | ۲۷        |
| ۹۲        | جہاد قسطنطنیہ سے متعلق بشارت    | ۲۸        |
| ۹۳        | علامہ قسطلانیؒ فرماتے ہیں       | ۲۹        |
| ۹۵        | امام ابن تیمیہؒ رقمطراز ہیں     | ۳۰        |
| ۹۵        | بخاری شریف گواہ ہے              | ۳۱        |
| ۹۶        | تاریخ اسلام و المسلمین کی گواہی | ۳۲        |
| ۹۸        | امامت نزار                      | ۳۳        |
| ۱۰۰       | برادر حسینؑ کی شہادت            | ۳۴        |
| ۱۰۲       | امیر حج                         | ۳۵        |

| صفحہ نمبر | عنوانات                            | نمبر شمار |
|-----------|------------------------------------|-----------|
| ۱۰۵       | امارت حج اور امیر المؤمنین زیدؑ    | ۲۶        |
| ۱۰۷       | طبری لکھتا ہے                      | ۲۷        |
| ۱۰۸       | عبداللہ بن عباسؑ کی شہادت          | ۲۸        |
| ۱۱۰       | حضرت حسینؑ کی شہادت                | ۲۹        |
| ۱۱۶       | برادر حسینؑ محمد بن حنفیہ کی شہادت | ۳۰        |
| ۱۲۱       | بہادر نوجوان                       | ۳۱        |
| ۱۲۱       | ایل قسطنطنیہ کو ڈانٹ               | ۳۲        |
| ۱۲۲       | فصاحت و بلاغت                      | ۳۳        |
| ۱۲۳       | خطیب و شاعر                        | ۳۴        |
| ۱۲۳       | امور سلطنت میں مہارت               | ۳۵        |
| ۱۲۳       | حکمرانی کا تصور                    | ۳۶        |

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

## سببِ تالیف

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

وجہ تالیف اس کتابچہ کی یہ ہے کہ مورخہ ۱۵ جولائی ۱۹۸۱ء کے نوائے وقت میں چوہدری محمد حسین چٹھہ صاحب کا ایک انٹرویو بعنوان ”اسلام کا شورائی نظام پارلیمانی نظام سے مطابقت رکھتا ہے“ جناب محمد اشرف صاحب کی تحریر میں شائع ہوا۔ اس سلسلہ میں ایڈیٹر نوائے وقت کے نام پمفلٹ ”موسومہ“ اسلامی نظام حکومت“ روانہ کیا۔ اور ساتھ ہی جناب چٹھہ صاحب کے ایک فرمان خاص جو اخبار میں اس شائع ہوا ہے۔

”بنو امیہ کی پہلی بدعت خلیفہ کی نامزدگی تھی۔ اس کو ختم کرنے اور صحیح اسلامی طریقہ انتخاب جاری و ساری رکھنے کے لئے سید الشہداء حضرت امام حسینؑ نے شہادت پیش کرنے کو ترجیح دی“ کے متعلق ایک مختصر و ضاحی خط روانہ کیا۔ مگر یہ خط بوجہ شائع نہ ہو سکا۔ بد قسمتی سے ہمارے ملک کا پریس اور خاص طور پر نوائے وقت بھی ایسے تمام تر آزادی صحافت کے دعوے کے باوجود مخصوص نقطہ نظر

کا اسی لیے۔ جس سے ہٹ کر وہ دوسرے نقطہ نظر کو  
 شائع کرنے کی جرأت نہیں رکھتا ہے۔ دور بنو امیہ جو  
 اسلامی تاریخ کا تباہ کن دور ہے۔ (جیسے عجمی اور خاص نقطہ  
 نظر کے مؤرخوں نے دھندلانے کی بھرپور شعوری کوشش  
 کی۔ مگر اس کے باوجود وہ اسے تاریخ کے اوراق سے  
 محو نہ کر سکے۔ اگرچہ وہ اس پر گرواڑانے میں ضرور  
 کامیاب ہو گئے۔) اس سنہری دور کے بارے میں ہمیشہ  
 نوائے وقت میں غلط، بے سرو پا، لغو اور جھوٹی داستان  
 سراہی کی باتیں چھپتی رہتی ہیں۔ اس طرح اس سنہری دور  
 کے بارے میں غلط باتیں تو نوائے وقت میں شائع ہو  
 کر عوام الناس کی فکری کجروی کا باعث بنتی ہیں۔ مگر سچی  
 باتیں کیونکہ نوائے وقت کے ادیب بے بس و کشادگی  
 فکری ریحان سے مطابقت نہیں رکھتی ہیں اور ساتھ ہی  
 کاروباری مفادات پر بھی زبرد پڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے  
 اس لئے وہ اس کے صفات میں جگہ نہیں پاسکتی ہیں۔  
 چھ صاحب نے اپنے خیالات کو تاریخ کے حوالے  
 سے پیش کیا ہے۔ اور بے بھی یہ خالص تاریخی موضوع  
 اس لئے زاتم الحروف نے بھی اس موضوع پر تاریخی نقطہ  
 نظر سے حقائق پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ ویسے  
 تو موضوع کے مضمون میں بہت سے نکات پر قلم  
 اٹھانے کی گنجائش ہے۔ مگر میں اس وقت صرف ایک

ہی موضوع پر گزارشات پیش کروں گا۔ اور وہ موضوع ہے۔ "خلیفہ کی نامزدگی"۔

امیر المومنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اقلیم امامت و خلافت کے چھٹے تاجدار ہیں۔ اپنی زندگی ہی میں صحابہ کرام کے مشورہ سے امت کی فلاح و بہبود کے لئے اپنے لائق، نیکو کار، عابد و زاہد، امیر المجاہدین، امیر الحجاج، سنت رسول کے شیدائی، صالح اور خوب صورت و خوب سیرت فرزند امیر المومنین یزید رحمۃ اللہ علیہ کو ولیعہد خلافت نامزد کر دیا تھا۔ تاکہ ان فتنہ پرور لوگوں کی طرف سے (جو حضرت حسنؑ کے امر خلافت امیر المومنین امیر معاویہؓ کے سپرد کرنے خلافت تھے۔ اور جنہوں نے حضرت حسنؑ کے بعارضہ پیش انتقال پر حضرت حسینؑ کے نام تعزیتی خطوط میں انہیں حصول خلافت کی جدوجہد میں اپنی طرف سے بھرپور اور مکمل تعاون کا یقین دلایا تھا) کسی قسم کے از سر نو فتنہ و فساد اور امت میں انتشار و قتال کے ممکنہ خطرے کا سدباب ہو سکے۔

حالات کی ستم ظریفی ملاحظہ ہو کہ حضرت امیر معاویہؓ اور ان کے رفقاء کار صحابہ و تابعین نے جو قدم کی خیر و فلاح کی خاطر اٹھایا۔ اسے ہی لوگوں نے ان کی ذات پر کیچڑ اچھالنے کے لئے استعمال کیا۔ حالانکہ انہوں نے جو کچھ کیا وہ اس سے پہلے ہو چکا تھا۔ نامزدگی کا جواز حضرت ابو بکر



صدیق رضی اللہ عنہ کے طرز عمل سے اور باپ کے بعد بیٹے  
 کا خلافت پر آنا یہ حضرت علیؑ کے طرز عمل سے پہلے وقوع  
 پذیر ہو چکا تھا۔ حضرت امیر معاویہؓ کے معاملہ میں یہ  
 دونوں چیزیں یک جا ہو گئیں۔ بہر حال جنت الفردوس  
 میں حضرت امیر معاویہؓ کی روح کا جب سیدنا ابو بکرؓ و  
 علیؑ کی روحوں سے ملاپ ہوتا ہوگا۔ تو روح معاویہؓ ضرور  
 یہ کہتی ہوگی۔

تمہاری زلف میں پہنچی تو حسن کہلائی

و تیرگی جو میرے نامہ سیاہ میں تھی

محمد ادریس ہاشمی  
 قصر معاویہ۔ علی پور سٹریٹ  
 نبی پارک۔ راوی روڈ لاہور  
 ۱۰ اگست ۱۹۹۱ء

## تقریظ

از قلم المحقق الشہیر علامہ السید حکیم فیض عالم صدیقی صاحب جہلم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

امت مسلمہ کی بد نصیبی اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے کہ قرن اول کے ۳۴ ہجرت نویسوں اور مورخوں میں سے تیس کے قریب ان عجمی غلاموں کی اولاد تھے۔ جو خلافت فاروقی میں سیدنا سعد بن ابی وقاصؓ، سیدنا مثنیٰ شیبانی اور ابو علیہ بن الجراح کے ہاتھوں پہلے پہلے ہزیمتیں اٹھا کر آخر کار سیدنا عثمانؓ ابن عفانؓ کی خلافت کے دوران صفحہ ہستی سے ہی ملیا میٹ ہو گئے۔ ان برائے نام مسلمان عجمی مورخوں نے نہایت ہوشیاری، عیاری اور سرکاری سے اسلامی تاریخ کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا۔ اور عوامی ذہن کے مذہبی اجارہ دار جن کے پیش نظر صرف تنور شکم کے لئے ایندھن فراہم کرنا تھا۔ مکھی پر مکھی مارتے چلے گئے۔ دُور نہ جاسیے میں آپ کے سامنے ایک موٹی سی مثال پیش کرتا ہوں۔

حجاز کے ایک مشہور عالم عبد الحمید خطیب جو مکہ معظمہ کے دارالعلوم میں مدرس بھی رہے۔ پھر

اکرم کہ ابو طالب نے یہ کہہ کر ارشاد دینے سے  
 انکار کر دیا تھا۔ الکوہی کا یہ حکایتی الکوہی۔  
 تاریخ خیابے اعتدالیوں کی فہرست طویل ہے۔ اہل  
 کے چشمہ کے فریب ام زحل سلمہ حضرت خالد بن  
 کے ہاتھوں قتل ہوئی۔ مگر یا لان سرہل نے یہ واقعہ  
 صدیقہ کا ثبات کے سرمنڈھہ دیا۔ خیر کا یہلمو ان  
 مرحمت سیدنا محمد بن مسلمہ کے ہاتھوں قتل ہوا۔ مگر محمد بن  
 سلمہ کا کریڈٹ سیدنا علی کے کھاتے ڈال دیا۔ فتح  
 مکہ کے روز حضور اکرم کے ساتھ ناقہ پر علی بن زینب  
 بنت رسول اللہ سوار تھے۔ اور انہی کے ہاتھوں کعبہ  
 کے بت لٹے تھے۔ مگر یہ سزاوت بھی سیدنا علی بن  
 ابو طالب کے نام لکھی گئی۔ حضور کے قبیل آپ  
 کے تانا یا زبیر بن عبد المطلب تھے۔ مگر یہاں ابو طالب  
 بھلے تھاج کو حضور کا قبیل بنا دیا گیا۔ مکہ کے رہنما  
 میں بیسیبوں گھاٹان آج بھی موجود ہیں۔ جو اس وقت  
 مختلف قبائل کی ملکیت تھیں۔ جو گھاٹ ہاشم کی ملکیت  
 تھی وہ شعیب بنہ ہاشم کے نام سے موسوم تھی۔ مگر  
 ہماری تاریخوں میں وہ شعیب ابو طالب کے نام سے  
 موسوم کی گئی ہے۔  
 حضور اکرم کا ارشاد بخاری شریف کی روایت کے  
 مطابق ہمارے سامنے موجود ہے کہ غزوہ بدر میں

سیف اللہ خالدؒ کو اللہ تعالیٰ نے فتح بخشی۔ مگر عجمی مورخین کا کہنا ہے کہ خالدؒ بخا طلبت وہاں سے اسلامی لشکر کو بچا کر کے آئے۔

سیدنا حسینؑ کے متعلق ہر فرقہ کی کتب میں موجود ہے کہ مسلم بن عقیل کے قتل کی خبر سن کر آپ نے اپنے موقف سے رجوع فرما کر یہ اعلان فرمایا تھا۔ ”مجھے واپس جانے دیا جائے۔ یا مجھے ترکوں کی سرحدات کی طرف نکل جانے دیا جائے۔ اور یا یزید کے پاس جانے دیا جائے۔ کہ میں اپنا ہاتھ اسی کے ہاتھ میں دے دوں۔ وہ میرے چچا کا بیٹا ہے۔ پھر وہ جو میرے لئے پسند کرے مجھے منظور ہے۔“

مگر آج تک اس حقیقت کو ہماری نظروں سے اوجھل رکھنے کے لئے لاکھوں صفحات سیاہ کئے جا رہے ہیں۔

تظہیر تاریخ کا کام امام ابن تیمیہؒ اور ابن عربیؒ کے ہاتھوں شروع ہوا۔ اول الذکر پر ملا اپنی کچلیاں کٹا کر حملہ آور ہوا۔ وقت گزرتا رہا اور عجمی اثرات سے مرعوب ذہنوں نے پھر وہی حربے آزمانے شروع کر دیے۔ ماضی قریب میں حیرت و ہلہول شاہ عبدالعزیزؒ۔ نواب محسن الملکؒ اور محمود احمد عباسی

مرحوم نے یہ کام سنبھالا۔ صالح روحوں نے ان کی آواز پر لبیک کہا۔ اور وہ اس وقت ایک سیر پلائی ہوئی دیوار کی طرح ڈٹ گئے۔ اسی فوج نظر موج کے ایک جانباز سپاہی السید محمد اور سیں ہاشمی ایم کے ہیں۔ جو بیک وقت اغیار کے علاوہ اپنے ان حقائق سے بے خبر ابرار سے بھی پنجہ کشش نظر آتے ہیں۔ جو اغیار کے دام ہمرنگ دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔

زیر نظر کتاب "مسئلہ ولی عہدی" میں موصوف نے اغیار کی اس گھناؤنی سازش کے چہرہ سے نقاب کشائی کی ہے۔ جس نے امت مسلمہ کے اچھے خاصے بزم خویش معروف معنوں میں علماء کی "مت مار" کر رکھ دی ہے۔

یہ تفصیل قارئین زیر نظر کتاب کے صفحات میں دیکھیں گے۔ میں صرف چند اشارات پر اکتفا کرتا ہوں۔

دنیا کی تاریخ میں یہ واحد مثال ہے کہ اس دور کے عظیم فاتح۔ جرنیل۔ مدبر اور سیاستدان سیدنا معیزہ بن شعبہؓ نے ساٹھ لاکھ مربع میل پر پھیلی ہوئی وسیع سلطنت میں بسنے والے ہر فکر کے لوگوں کے اذہان، افکار، کردار اور افتاد

طبع کا گہرے غور و فکر سے مطالعہ کرنے کے بعد  
یہ نتیجہ اخذ کیا کہ اگر مملکت اسلامیہ کو مستقبل میں  
پیش آنے والے اندرونی و بیرونی خطرات  
سے محفوظ رکھنے کا کوئی طریقہ ہو سکتا ہے۔ تو وہ  
یہ ہے کہ مستقبل میں ہونے والے خلیفہ کا اعلان  
کر دیا جائے۔ اور وہ ایسی شخصیت ہو۔ جو علم  
تدبیر، شجاعت، سخاوت میں بے مثل ہو۔ جس کی  
شخصیت تمام عالم اسلام میں جانی پہچانی ہو۔ جس کی  
جلوت و خلوت کی زندگی سب کے سامنے ہو۔ جس  
کا نام سن کر ہی اغیار اپنی تخریبانہ پخت و پزیر  
بھول جائیں۔

امت مسلمہ پر اس شخص (سیدنا مغیرہ بن شعبہ)  
کا یہ احسان عظیم تھا۔ جس نے قبل از وقت ہی نہایت  
دور اندیشی سے مستقبل میں متوقع بغاوتوں، خروجوں  
شرارتوں، ریشہ و دانیوں اور جفاکوتوں کے سر  
چستے بند کر دینے کا فیصلہ کیا۔

۱۱ھ میں سیدنا مغیرہ بن شعبہ نے یہ تجویز امیر  
المومنین امیر معاویہ کے سامنے پیش کی کہ زندگی کا  
کوئی بھروسہ نہیں۔ آپ اپنی زندگی ہی میں اپنے جو امر  
بیٹے یزید کی ولی عہدی کا اعلان فرمادیں۔ تاکہ جو  
نا پختہ ذہن مستقبل میں خلیفہ بننے کی آس لگائے

بیٹھے ہیں۔ عوام کو ایک حتمی فیصلہ پر مجتمع دیکھ کر خود  
 بخود اپنے اپنے مقام تکمیل ہو کر رہ جائیں گے۔ اور  
 امت ایک بڑی خانہ جنگی سے محفوظ ہو جائے گی۔  
 امیر المؤمنین سیدنا امیر معاویہؓ نے ٹھنڈے دل سے  
 یہ تجویز سننی اور کسی رد عمل کا اظہار نہ کیا۔ سیدنا امیرؓ  
 بن شعبہؓ کی آواز صدائے بازگشت نے تمام مملکت  
 اسلامیہ میں ایک گونج سی پیدا کر دی۔ امیر المؤمنین  
 کے کانوں تک مختلف مقامات سے یہ آواز پہنچتی  
 رہی۔ اور آخر جب آپ نے دیکھا کہ تمام عالم  
 اسلام امیر یزیدؓ کی ولی عہدی پر متفق ہو چکا ہے۔  
 تو آپ نے اس کا اعلان پھر بھی نہ کیا۔ بلکہ ۵۵ھ  
 میں حج سے فارغ ہو کر دمشق جاتے ہوئے مدینہ  
 الرسول میں جاضری دینے کے بعد اکابرین مدینہ  
 کو طلب کر کے ان کے سامنے یہ تجویز پیش کی۔  
 جب ہر طرف سے تائیدی آوازیں سنیں تو آپ  
 نے یزیدؓ کی ولی عہدی کا اعلان کر دیا۔ اس کے  
 بعد آپ چار سال تک زندہ رہے۔ مگر ملک کے  
 کسی گوشہ سے فرود آمد نے آپ کے اس اعلان  
 کے خلاف آواز نہ اٹھائی۔  
 یہ تمام تفصیل قارئین کرام فاضل مؤلف کی زیر نظر  
 تالیف میں دیکھیں گے۔ آج جو لوگ اپنی کم علمی بیبھرتی

اور عدم واقفیت کی وجہ سے امیر معاویہؓ کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ ان ذہنی مفلسوں کو اس بات کا کیا علم ہو سکتا ہے۔ کہ اگر امیر معاویہؓ امیر نزیہ کو ولی عہد نامزد کرتے۔ تو آپ کی آنکھیں بند ہوتے ہی پورا عالم اسلام خانہ جنگی اور انتشار کا شکار ہو کر لاکھوں فرزندوں کو حید کو ایک دوسرے کے گلے کاٹنے کی طرف دھکیل دیتا۔ اپنے جانشین کی نامزدگی (اشارۃ) تو خود

رسول اکرمؐ نے فرمادی تھی۔ اور حضورؐ کے بعد صدیق اکبرؓ اور فاروق اعظمؓ نے بھی نامزدگی ہی فرمائی۔ رہا سوال بیٹے کو نامزد کرنے کا۔ تو بعض روایات کے مطابق سیدنا علیؓ نے اپنے بعد سیدنا حسنؓ کو نامزد فرمایا تھا۔ اور بعض روایات کے مطابق اگر آپ نے سیدنا حسنؓ کو نامزد نہیں کیا تھا۔ تو جب لوگوں نے پوچھا کہ کیا ہم آپ کے بعد سیدنا حسنؓ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔ تو اگر باپ کے بعد بیٹے کی جانشینی کوئی قبیح فعل ہوتا تو آپ صاف لفظوں میں انہیں ایسا کرنے سے روک دیتے۔ ورنہ امیر المومنین امیر معاویہؓ کے بعد سلطان عبدالحمید عثمانی کے زمانہ تک جو کچھ ہوتا



رہا وہ سب غیر اسلامی فعل ماننا پڑے گا۔  
 اور تیرہ سو سال کے تمام علماء کرام کو شریعت  
 اسلامیہ سے بے خبر تسلیم کرنا پڑے گا۔ جو  
 یاسا کے بعد بیٹے کی نامزدگی اور جانشینی کو  
 تسلیم کرتے رہے۔ اور ان خلفاء بنو امیہ  
 بنو عباس۔ اور عثمانی خلفاء کے خطبے پڑھتے  
 رہے۔

(السید حکیم فیض عالم صدیقی  
 جامع اہلحدیث جہلم)

۱۱-۱-۸۲

از قلم محترم و مکرم حضرت مولانا السید محمد سرور صاحب شفیق،  
خطیب اعظم پسرورہ، و امیر جماعت غریبا اہل حدیث ضلع سیالکوٹ  
بسم اللہ الرحمن الرحیم

محرمی و مکرمی جناب حضرت العلامة ابو معاویہ  
محمد اور ریس ہاشمی صاحب،

(ایم۔ اے۔ ایم۔ او۔ ایل۔)

آپ کی زیر نظر تصنیف مسئلہ ولی عہدی کا مسودہ  
دیکھنے کا موقع ملا۔ ایک دفعہ پڑھنا شروع کیا تو پھر ختم  
کر کے ہی دم لیا۔ آپ نے مسئلہ ولی عہدی کو قرآن  
و حدیث اور تاریخ کے آئینہ میں تحریر فرما کر  
بہت بڑی ملی اور دینی خدمت سرانجام  
دی ہے۔

براہِ رم :- یہ ہماری بڑی نصیبی ہے کہ ہمارے  
ابتدائی دور کی تاریخ لکھنے والے اکثر مورخ سبائی  
پروپیگنڈے سے متاثر اور سچی ذہنیت کے مالک  
تھے۔ اور انہوں نے اپنی عرب دشمنی اور اسلام  
سے نفرت کا اظہار اس طرح کیا۔ کہ اسلام کے قرن  
اولیٰ کی تاریخ لکھتے وقت اس دور کے درخشندہ  
ستاروں کی سیرت و کردار کے بارے میں بے  
سر و پا اور لغو روایات کا انبیاہ اپنی کتب میں

درج کر دیا۔ جسے بعد کے لوگوں نے اسی طرح  
 اپنی کتب میں درج کر کے چاروں طرف پھیلا  
 دیا۔ چنانچہ انہی مورخوں کی پھیلائی ہوئی بے سروپا  
 اور من گھڑت روایات کو آج ہمارے علماء و اعلیٰ  
 کی بھاری اکثریت اپنی تقاریر میں بیان کر کے  
 غیر شعوری طور پر صحابہؓ کی کردار کشی میں مصروف  
 ہے۔ آپ جیسے باہمت افراد کی تطہیری کوششیں  
 قابل ستائش ہیں۔

میں نے مسئلہ ولی عہدی کو اول تا آخر پڑھائے  
 آپ نے کوئی بھی پہلو نظر انداز نہیں کیا۔ بلکہ استشہاد  
 و استنباط سے مفصل وضاحت کر کے گمراہ کن نظریات  
 کی تنقید کی ہے۔

اگر پاکستانی علماء میں ذوق تحقیق ختم نہ ہو چکا ہوتا  
 تو عوام الناس اور خواص دونوں میں جس جا بگدستی  
 سے سیاحت اپنے فاسد نظریات پھیلا کر انکے  
 اذیان قابو کو مسموم کر رہا ہے۔ اس کے پیش نظر  
 علماء اہلسنت کا یہ فرض تھا کہ وہ اپنے اختلافات  
 کو نظر انداز کر کے اس فتنہ عظیم سے امت کو  
 آگاہ کرتے۔ جس نے اکابر صحابہؓ رضوان اللہ علیہم  
 اجمعین کے خون سے ہولی کھیلی اور امت مسلمہ میں  
 اختلافات کو جنم دیا۔ علماء امت کا فرض تھا کہ وہ

متحد ہو کر اس فتنہ عظیم کے خلاف جد جہد کرتے۔  
مگر افسوس کہ اکثریت نے اپنی تمام علمی کاوشیں اور  
ذہنی صلاحیتیں آپس کی سر پھٹول میں ضائع کر دیں۔ اور  
اہل فتنہ کی طرف سے آنکھیں بند کئے بیٹھے ہیں۔ اس  
کا نتیجہ یہ ہے کہ سادہ لوح عوام الناس سبائی دنیا  
کی تیار کردہ شرک و بدعات کی بھٹیوں میں کودتے  
چلے جا رہے ہیں۔

ستم بالائے ستم تو یہ ہے کہ سنی علماء و حاملین جہد  
و دستار اغیار کے سروں میں سر ملا کر اسی سبائیت  
کے راگ کو الاپ رہے ہیں۔ اور اس طرح نہ صرف  
خود گناہ گار ہوتے ہیں۔ بلکہ عوام الناس کو بھی گمراہی  
کے عمیق گڑھے میں دھکیل رہے ہیں۔ شہادت حسین  
کے جلسوں اور مجالس عزاء میں صرف نام کا ہی فرق  
ہوتا ہے۔ باقی نفس مضمون دونوں طرف ایک ہی  
ہوتا ہے۔ اس طرح اہلسنت کے یہ جلسے بالواسطہ  
رفض کی ہی تبلیغ کرتے ہیں۔

اس پر فتنہ زور میں آپ نے مسئلہ مذکور کو  
تحریر کر کے کاتب وحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی  
رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صاحبزادے  
تابعی رحمۃ اللہ علیہ پر کئے گئے اعتراضات  
اور الزامات کا صحیح اور مثبت انداز میں جو

نقشہ پیش کیا ہے وہ عین کتاب و سنت کی  
 مطابقت و موافقت سے۔  
 میری دعا ہے کہ اللہ کریم فاضل مکرم کی محنت  
 کو قبول فرمائے۔ اور اس کے علم سے لوگوں  
 کو مستفید فرمائے۔ (آمین ثم آمین)

الراقم

د مولانا السید محمد سرور الشفیق

خطیب جامع اہلحدیث پیرور

ضلع سیالکوٹ

۵-۱۲-۸۱

25716 25716

از رشحات قلم :-

جناب السید مولانا حسن محمد صاحب خطیب جامع الہدیہ نوکھر

بسم اللہ الرحمن الرحیم

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اما بعد۔

راقم الحروف نے حضرت مولانا السید محمد ادریس ہاشمی  
فاضل اجل۔ عالم بے بدل و امت فیو فہم کی تصنیف  
لطیف مسئلہ ولی عہدی کو بغور پڑھا۔ اور بے  
محظوظ ہوا۔ ہاشمی صاحب نے دلکش پیرایہ  
میں کتاب مستطاب کو دو حصوں میں تقسیم  
کرتے ہوئے دلائل حقہ و براہین ساطعہ سے  
مزین فرمایا ہے۔ مولانا موصوف کا یہ ایک  
عظیم کارنامہ ہے۔ جو کہ پوری دنیا میں اپنی  
نظیر آپ ہے۔ انداز استدلال اور اظہار  
نتائج کا دلنشین ہونا مولانا کی تحریر کا واضح  
ثبوت ہے۔

بحمد اللہ تعالیٰ بلا مبالغہ یہ کہنا بے جا نہ ہوگا  
کہ مسئلہ ولی عہدی کے مثبت و منفی پہلو پر  
محدثانہ فقہانہ اور مورخانہ انداز سے اصول  
مسئلہ کی روشنی میں مسکت اور معینی برانصاف  
بحث و تجویس پیش کی ہے۔ وہ نہایت ہی قابل

قدر ہے۔ ہر سنجیدہ مزاج اس سے کما حقہ  
فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ مولانا نے جس مسئلہ پر قلم  
اٹھایا ہے۔ اسے تشدد تکمیل نہیں رہنے دیا۔  
یہ ایک سچی جمیل ہے۔ امید و انتہا ہے کہ اہل علم  
و دانش اپنے دل و دماغ میں ضرور جگہ  
دیں گے۔

فجراہ اللہ عنا وعن سائر متبعی السنہ و صلی  
اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ واصحابہ  
اجمعین۔

احقر الانام ابوالعام حسن محمد  
خطیب جامع اہلحدیث نوکر  
ضلع گوجرانوالہ

۸۱-۱۲-۱۴

از رشحات قلم -

جناب السید عبدالستار انصاری ایک اے  
سیکرٹری جماعت غزب اہل حدیث ڈیرہ غازیخان

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تَحْمِیْدُهُ وَفَضْلِی عَلٰی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ - اَمَّا بَعْدُ -

جب دین اسلام کے روشن ستارے فرامین  
مصطفیٰ کو اکٹھا کرنے اور ان کی تشہیر و تبلیغ  
کے لئے ان فرامین کو کتابی شکل دے کر خدمت  
دین کا مقدس فریضہ سرانجام دے رہے تھے۔  
تو دوسری طرف یہود و مجوس کے آلہ کار منافقت  
کے لبادہ میں دین اسلام کی جڑوں کو اکھاڑنے  
کی کوششوں میں مصروف نظر آتے ہیں۔ اس  
مقصد کے لئے ان کا زور واقعات کو مسخ کرنے  
اور اسلام کے شاہکاروں کے بارے میں غلط  
قسم کے شبہات امت مسلمہ کے بھولے بھالے  
مسلمانوں کے دلوں میں سمونے پر تھا۔ ان کا یہ  
کاروبار کچھ اتنی تیزی سے بڑھا کہ نہ صرف عوام  
الناس میں اس کا زہر غیر محسوس انداز میں سرایت



کر گیا۔ بلکہ تقلیدی ذہن رکھنے والے اہل قلم بھی  
 ناراضگی میں اس کا شکار ہوئے۔  
 وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسلامی ریاست  
 کی سرحدیں دور دور تک پھیل گئیں۔ توجہاں  
 صلحائے امت دین اسلام کی تعلیمات لیکر پہنچے  
 وہاں ساتھ ساتھ مذکورہ بالا گروہ کے اراکین  
 بھی اپنی تبلیغ کے لئے صوفیت (باطنی) کا لباڑہ اڑھ  
 کر جا پہنچے۔ صوفیت میں زیادہ تر اعمال و اقوال کا  
 دار و مدار صوفیا کی زبانی تعلیم پر ہوتا ہے۔ اسلئے  
 تحقیق کا دور دور تک نام نہیں ہوتا۔ اس گروہ  
 میں نہایت عیار اور کایاں شعبہ ہائے ہنر نے اپنی  
 شاطرانہ چالوں سے عوام الناس کے اذہان میں اسلام  
 کے جاں نثاروں کے بارے میں نہایت غلط شبہات  
 کا بیج بویا۔ جو وقت کے ساتھ تن اور درخت  
 بن گیا۔ جس کی آبیاری ملت اسلامیہ کے تن آسان  
 سلاطین کے سرمایہ اور مقلدانہ ذہن کے قلم  
 سے ہوئی۔

فی زمانہ دور ترقی میں سائنسی ایجادات سے  
 استفادہ بھی زیادہ تر اسی گروہ کے سائنسوں نے  
 کیا۔ ابلاغ عامہ کے ذرائع جو زیادہ تر عوام کے  
 نفسانی جذبات کی تسکین کو اپنا فرض اول گردانتے ہیں۔

مذہبی معاملات میں بھی انہیں کے جذبات کا احترام  
 کیا جاتا ہے۔ جو عوام کے لئے رقص و سرور فحاشی  
 کے پروگراموں میں شریک ہوتے ہیں۔  
 مذکورہ بالا گزشتہ اسلامی تعلیمات اور مسلم احساسات  
 کو مسخ کرنا ہی اپنا فرض اول سمجھتا ہے۔ خواہ  
 اس کے لئے کتنا ہی غلط حربہ استعمال کرنا پڑے۔  
 یہی وجہ ہے کہ آج اخبار۔ رسائل جرائد۔ ریڈیو اور  
 ٹیلیویشن وہی کردار ادا کرنے میں مصروف کار  
 نظر آتے ہیں۔ جس کی بنا پر عوام کے دلوں میں  
 ملت اسلامیہ کے ان عظیم سپوتوں (جن کی فراست  
 شرافت اور اسلامی خدمات کی وجہ سے اس دنیا  
 میں چار سو اسلام کا بول بالا ہوا) کے بارے میں  
 غلط قسم کے شبہات پروان چڑھتے ہیں۔  
 اس تحریری اور تقریری پروپیگنڈے کے دور  
 میں بھی علمائے حق اپنے فرض سے بے خبر نہیں ہیں۔  
 وسائل کی کمی کے باوجود اہل قلم اسلامی لبادوں میں  
 ملبوس مجوسیوں۔ نصرانیوں اور یہودیوں کی اس یلغار  
 کا مقررین اپنی تقاریر کے ذریعے۔ علماء کرام درس  
 و تدریس اور خطباء حضرات خطبات کے ذریعے  
 اس زیر زمین اسلام دشمن پروپیگنڈے کا مسکت  
 دے رہے ہیں۔ (جس کا پہلا شکار صہر رسول و

داماد علیؑ سیدنا عمر بن خطاب ہوئے۔ پھر داماد  
 رسولؐ سیدنا عثمانؓ یعنی پھر داماد رسولؐ سیدنا علیؑ  
 پھر حضرت حسنؓ اور حضرت حسینؓ کے خون سے ان کی  
 آستینیں رنگین ہوئیں۔ اور جب اسلام کے عظیم مقبول  
 خاندان بنی امیہ کے عظیم سپوتوں نے ان کو میدان  
 میں شکست فاش دے کر اسلامی حدود کو وسعت  
 دینے کی جدوجہد شروع کی تو مجوسیت اور اس  
 کے گماشتے زیر زمین اسلامی تاریخ کو بگاڑنے میں  
 مصروف کار ہو گئے۔ اور قرن اول کی خیر امت سیتوں  
 کے دامن پر چھینٹے اڑانے میں مصروف ہو گئے۔

شبہات کے ازالے کے سلسلہ کی ایک کڑی زیر  
 نظر کتاب "مسئلہ ولی عہدی" ہے۔ جس میں فاضل مصنف  
 نے نہایت دانشمندی سے حدیث و تاریخ کی کتب  
 سے اس شبہ کا ازالہ کر دیا ہے۔ جو عوام الناس میں  
 وجہ نزاع بنا رہا ہے۔ فاضل مولف نے جہاں مسئلہ  
 ولی عہدی کا خاکہ نہایت سلجھے ہوئے انداز میں پیش  
 کیا ہے۔ وہاں مسئلہ خلافت و انعقاد و خلافت  
 کو مستند کتب احادیث مشہور کتب تواریخ کے  
 حوالہ جات سے بھی واضح کیا ہے۔ جن پر اس  
 شبہات رکھنے والے گروہ کا بھی ایمان ہے۔  
 علاوہ ازیں فاضل دوست نے خاندان بنو امیہ کے

چشم و چراغ اور اسلام کے اس سپوت <sup>کی برکت</sup> جس کے  
دور میں بقول علامہ اقبال۔

دشمت تو دشمت ہیں مریا بھی نہ چھوڑے ہم نے

بجز ظلمات میں دوڑا ویسے گھوڑے ہم نے

اسلامی سرحدیں شمالی افریقہ کے آخری کناروں تک  
تک پہنچ گئیں تھیں۔ (مگر جس کا نام اب گالی کے طور  
پر لیا جاتا ہے) مخالفین و موافقین کی شہادتوں کی  
روشنی میں نہایت سہل اور خوبصورت انداز میں کی ہے  
کہ تعریف نہ کرنا عدل سے بعید ہوگا۔ اللہ تعالیٰ  
فاضل ساتھی کے زور قلم کو اور زیادہ کرے تاکہ  
دین حق کی مزید خدمت کر سکے۔ اور ساتھ ساتھ  
ناشرین بھی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ جن کی کاوشوں  
سے دور جدید کے شبہات میں سے بنیادوں کا  
ازالہ کرنے میں ہمت افزائی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید  
توفیق عطا فرمائے تاکہ اس دور کے قلمی جہاد میں  
بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہیں۔ (آمین۔)

عبد الستار انصاری

۳۰ دسمبر۔ ۱۹۸۱ء

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

## عرض مولف

کتاب مسئلہ ولیعهدی قارئین کے ہاتھوں میں ہے وہ اس کے مطالعہ کے بعد ہی کوئی رائے قائم کر سکیں گے۔ کہ میں کہاں تک معاملہ کو واضح کرنے میں کامیاب ہو سکا ہوں۔ ہماری تاریخ کی ابتدائی کتب کو بنیادی طور پر کتب تواریخ کی بجائے مواد تواریخ کی کتابیں کہا جائے تو زیادہ درست ہو گا۔ ان کتابوں میں درست اور پختہ روایات کے ساتھ ساتھ غلط اور موضوع روایات بھی ملتے ہیں۔ ثقہ راویوں کے ساتھ مجہول اور کذاب راویوں کی بے سرحیا بائیں بھی ملتے ہیں۔ اگر یہ مورخین درست اور غلط باتوں کو چھانٹ کر صرف درست باتوں کو ہی اپنی کتب میں درج کرتے تو آج یہ طوفان بدتمیزی مچا ہوا نظر نہ آتا۔ کہ ایک ہی کتاب سے ایک مصنف ایک شخص کو شریف النفس اور صالح و دیندار ثابت کرتا ہے۔ تو دوسرا مصنف اسی کتاب سے اسی شخص کے بارے میں دوسری تصویر پیش کر کے پہلے مصنف پر بددیانتی کا الزام لگاتا ہے۔ اور پھر مصنف اپنے اپنے رجحان طبع کے مطابق عوام کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتا ہے کہ جو وہ پیش کر رہا ہے

وہی حقیقت ہے۔

حضرات صحابہ کرام کو شہادت عثمان رضی اللہ عنہ کے  
سانحہ کے ساتھ ایک عظیم فتنے سے دوچار ہونا پڑا۔ اور  
انہوں نے اس موقع پر اپنی فہم فراست کے مطابق اپنے لئے  
راہ عمل متعین کی۔ ان کی رائے کے متعلق تو یہ کہا جاسکتا ہے  
کہ اس میں بعض سے خطا ہوئی اور بعض صواب سے ہم  
کنار ہوئے۔ لیکن ایک بات طے شدہ ہے کہ ان نفوس  
قدسیہ نے اس وقت کے ناموافق حالات میں دبا تدری  
سے فیصلہ جات کئے۔ ان کی نیت پر کسی قسم کا شبہ نہیں کیا  
جاسکتا۔ وہ اس دور کے بہترین عالم تھے۔ لیکن چونکہ وہ  
مقصوم نہیں تھے اس لئے ان کے فیصلہ جات پر بعد کے  
مورخین کو تو حق حاصل ہے کہ وہ ان پر درست یا نادرست  
ہونے کی رائے دیں۔ کہ بعد میں آنے والوں نے ان کے  
فیصلہ جات کے نتائج دیکھ لئے ہیں جب کہ جن نفوس قدسیہ  
نے یہ فیصلہ جات کئے تھے۔ وہ فیصلہ کرتے وقت ان کے  
نتائج و عواقب سے آگاہ نہ تھے۔ وہ مجتہد تھے۔ انہیں رائے  
کے خطا یا صواب ہونے پر دونوں صورتوں میں اجر عظیم  
ہی حاصل ہوگا۔ اور ان کا کوئی اجتہادی موقف ان کی  
شان میں تنقیص یا گستاخی کے لئے وجہ جواز نہیں بنتا ہے۔  
اور ان کی شان میں گستاخی یا نقص پیدا کرنے والا اپنے  
ہی نامہ اعمال کو تباہ و برباد کرتا ہے۔ اس کی زبان

دراندہی سے ان نفوس قدسیہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔  
جس طرح چاند پھر تھوکنے والے کا تھوک اس کے اپنے  
منہ پر پڑتا ہے وہ چاند کی چاندنی کو ماند نہیں کر سکتا  
ہے۔

اپنی زیر نظر کتاب میں میں نے ایک اصول کو بنیادی  
طور پر سامنے رکھا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ امیر یزید  
رحمۃ اللہ علیہ کے کردار کے بارے میں حضرات صحابہ کرام  
کی ٹھوس اور مستند گواہیوں کے مقابلہ میں بعض مجہول  
الاسم راویوں۔ شیعہ یا مائل بہ تشیع راویوں کی روایات کو  
ترک کر دیا ہے۔ شیعہ راویوں کی ان روایات کو لیا ہے  
جو امیر موصوف کے حق میں تھیں۔ کہ کوئی مخالف اپنے حریف  
کی تعریف مجبوراً ہی کرتا ہے۔ البتہ ان کے خلاف  
ان کی باتوں کو صحابہؓ کے ٹھوس اور چشم دید واقعات پر  
ترجیح نہیں دی۔ اب ذیل میں اسی قسم کی کچھ روایات  
اور ان کو ترک کرنے کی وجوہات درج ہیں۔

۱۔ وقیل ان سبب موتہ انه حمل قردة وجعل ينقرها  
فحضنته وذكروا عنه غير ذلك والله اعلم بصحته۔  
ترجمہ: اور کہا گیا ہے کہ یزید کی موت کا سبب یہ ہے  
کہ اس نے ایک بندر اٹھایا ہوا تھا۔ وہ اس کے ساتھ  
کھیل رہا تھا (ٹانگ کھینچتا) پس اس نے کاٹ کھایا۔  
(یزید کو) اور اس کے علاوہ بھی ان کے متعلق باتیں بیان

کی گئی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے درست ہونے کے بارے میں زیادہ جانتا ہے۔

والبدایہ والنہایہ، ج ۸، ص ۲۳۶، ۲۳۷

مذکورہ بالا روایت مجہول ہے۔ جس کے بیان کرنے والے کا اتہ پتہ معلوم نہیں۔ اور اس کی صحت کے بارے میں حافظ ابن کثیر نے یہ کہہ کر کہ اس کے صحیح ہونے کے بارے میں اللہ بہتر جانتا ہے اپنی طرف سے بھی شک کا اظہار کر دیا ہے۔

۱۲۔ وقال الحافظ ابو یعلیٰ احدثنا الحكم بن موسى حدثنا يحيى بن حمزة عن هشام بن الغاز عن مكحول عن ابي عبيدة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال امر امتي قائما بالقسط حتى يثلم رجل من بني امية يقال له يزيد - وهذا منقطع بين مكحول و ابي عبيدة -

ترجمہ: حافظ ابو یعلیٰ کو حکم بن موسیٰ نے بیان کیا ان کے پاس یحییٰ بن حمزہ نے ہشام بن الغاز سے بیان کیا۔ ہشام نے مکحول سے اور مکحول نے ابی عبیدہ سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ میری امت میں امر خلافت انصاف و عدل پر قائم رہے گا۔ یہاں تک کہ بنی امیہ میں سے ایک شخص جس کا نام یزید ہوگا اسے ختم کر دے گا۔ (حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں) یہ



روایت منقطع ہے۔ کچھ اور ابی علیہ کے درمیانی  
راوی کا پتہ نہیں۔

(البدایہ والنہایہ ج ۸، ص ۲۳۱)

اسی روایت کو ابن عساکر نے دوسری روایت سے  
بیان کیا ہے۔ مگر وہ بھی منقطع ہے۔ ملاحظہ ہو۔

وقد رواه ابن عساکر..... ثم قال وهو  
منقطع ایضاً بین مکحول وابی ثعلبہ۔

ترجمہ ۱۔ اور ابن عساکر نے بیان کیا ہے.....  
پھر فرمایا یہ روایت بھی کچھ اور ابی ثعلبہ کے درمیان  
منقطع ہے۔ یعنی ان کے دونوں کا درمیانی راوی غائب  
ہے۔

۳۔ وقد روی ان یزید کان اشتھر بالمحارز  
وشرب الخمر والغناء والصيد واتخاذ الغلمان  
والقیان والکلاب والنطاح بین الکباش والذباب  
والقرود۔ وما من یوم الا یصبح فیہ مخموراً  
وکان یشد القرد علی فرس مسرحة بحبال  
یسوق بہ۔ ویلبس القرد قلائس الذهب  
وکن الی الغلمان وکان یسابق بین الخیل  
وکان اذا مات القرد حزن علیہ۔ وقیل ان  
سبب موته انه حمل قروداً وجعل ینقرها  
فعضته۔ وذكر واعنه غیر ذالک واللہ اعلم

بصعته ذالك -

ترجمہ :- اور بیان کیا گیا ہے کہ بے شک مزید  
 ڈھول باجے، شراب پینے، گانا سننے، شکار کھیلنے -  
 نوجوان لڑکے اور لونڈیاں رکھنے، کتے پالنے،  
 مینڈھوں، بچھوں اور بندروں کو لڑانے جیسے کاموں  
 کے لئے مشہور تھا۔ اور ہر روز شراب میں بدست  
 رہتا تھا۔ اور وہ زمین کے گھوڑوں پر بند کو بٹھا کر  
 اسے مانگ دیتا تھا۔ اور بندروں کو سونے کی ٹوپیاں  
 پہناتا تھا۔ اور اسی طرح لڑکوں کو بھی سونے کی ٹوپیاں  
 پہناتا تھا۔ اور گھوڑے دوڑاتا تھا۔ اور جب کوئی بند  
 مرجاتا تو وہ اس کا غم کرتا۔ اور کہا گیا ہے کہ اس  
 کی موت کا سبب یہ ہے کہ اس نے بندرا ٹھاپا ہوا  
 تھا۔ وہ اس کی ٹانگ کھینچنے لگا۔ پس اس نے گال  
 لیا۔ اور اس کے بارے میں اس کے برعکس بھی بیان  
 کیا گیا ہے۔ اور اس کی صحت و درستی کے بارے میں  
 خدا ہی بہتر جانتا ہے۔

یہ روایت بھی مجہول ہے۔ اس کے بیان کرنے  
 والے کا بھی کوئی پتہ نہیں۔ مزید آخر میں حافظ ابن  
 کثیر نے بھی اس کی صحت کے بارے میں شک کا اظہار  
 کر کے واضح کر دیا کہ یہ روایت ناقابل اعتبار  
 ہے۔

۱۳۔ قلت، قال حديث الذي يروى ان رسول الله  
صلى الله عليه وسلم راى معاوية يحمل يزيداً -  
فقال، رجل من اهل الجنة يحمل رجلاً من اهل  
النار - فقال ليس بصحيح - قال ابن عساکر  
وهو كما قال فان يزيد بن معاوية لم يولد  
في حياة النبي - وانما ولد بعد العشرين  
من الهجرة -

ترجمہ: میں نے حافظ ابن کثیر (میں نے) کہتا ہوں کہ وہ حدیث  
جو بیان کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  
نے معاویہؓ کو بچہ کو اٹھائے دیکھا تو فرمایا: ایک  
جنتی شخص ایک دوزخی کو اٹھائے ہوئے ہے۔ یہ  
حدیث درست نہیں۔ ابن عساکر کہتے ہیں۔ اور اسی  
طرح یہ بھی فرمایا کہ بے شک بچہ بن معاویہؓ نبی اکرم  
صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیدا نہیں ہوا۔ بے شک  
وہ مشرک کے بعد پیدا ہوئے۔

البدایہ والنہایہ، ج ۸، ص ۲۲۶،

یہ روایت جیسا کہ اوپر درج ہوا غلط ہے۔ مگر  
عوام الناس میں بہت مشہور ہے۔ اور کم علم علماء و  
واعظین بھی اسے بیان کرتے ہیں۔ اور کوئی بھی مصنف  
اس روایت پر کی گئی جرح کو چھوڑ کر البدایہ والنہایہ  
کے حوالہ سے عوام کو مغالطہ دے سکتا ہے۔ اور

دیا جاتا ہے۔

۵۔ وقد قال الامام احمد..... انه سمع  
ابا سعيد الخدري يقول. سمعت رسول الله  
صلى الله عليه وسلم يقول: يكون خلف من بعد  
ستين سنة اصنعوا الصلوة واتبعوا الشهوات  
فسوف يلقون غيا..... تفروبه احمد۔  
ترجمہ۔ اور امام احمد فرماتے ہیں..... کہ  
انہوں نے حضرت ابو سعید خدری کو فرماتے ہوئے  
سنا۔ کہ میں نے ابو سعید خدری سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ  
وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ کہ اللہ کے ناپل لوگ  
ہوں گے۔ کہ وہ نمازوں کو ضائع کریں گے۔ اور نفسانی  
خواہشات کی پیروی کریں گے۔ وہ جہنم میں پھینک دیے  
جائیں گے۔ امام احمد اس روایت کے  
بیان کرنے میں متفرد ہیں۔

(البدایہ والنہایہ، ج ۸، ص ۲۳)

اس روایت کو بھی بعض مصنفین اس کی کمزوری کا  
ذکر کئے بغیر بیان کرتے اور عوام کو غلط تاثر دیتے  
ہیں۔

۴۴۔ ووقعوا على النساء حتى قيل انه حبلت الف  
اموات في تلك الايام من غير زوج فالله اعلم۔  
ترجمہ۔ اور وہ عورتوں پر پل پڑے۔ یہاں تک کہ

کہا جاتا ہے کہ ان دونوں میں ایک ہزار عورتیں بغیر شوہروں کے (غیر شوہروں سے) حاملہ ہو گئیں۔ اور اللہ بہتر جانتا ہے۔

دالبدایہ والنہایہ، ج ۸، ص ۲۲۱،

اس روایت کے خط کشید الفاظ اس کے بے سند اور ناقابل اعتبار ہونے پر دلالت کرتے ہیں کیونکہ لفظ قبل سے کہنے والے مجہول راوی کا کوئی پتہ نہیں چلتا اور آخر میں اللہ بہتر جانتا ہے کے الفاظ سے حافظ ابن کثیر نے اپنے شک کا اظہار کر دیا ہے۔

قال المدائنی عن ابی قرۃ قال قال هشام بن حسان: ولدت الف امواتہ من اهل المدینۃ بعد دقۃ الحرة من غیل زوج۔

ترجمہ: مدائنی ابی قرہ سے بیان کرتے ہیں کہ هشام بن حسان نے بیان کیا کہ اہل مدینہ سے ایک ہزار عورتوں نے واقعہ حمرہ کے بعد بغیر شوہروں کے (یعنی غیر شوہروں سے) بچے جنم دیے۔

دالبدایہ والنہایہ، ج ۸، ص ۲۲۱،

اس روایت میں ابی قرہ راوی مجہول ہے۔ اور پھر عقل و روایت اور روایت الساب سے ہمیں ان ایک ہزار ولد الزنا کے بارے میں کوئی پتہ نہیں چلتا

ہے۔ کہ وہ کہاں گئے: سارے مرگے یا زندہ رہے۔  
 اگر زندہ رہے تو ان کی نسل کا وجود کہاں ہے۔ یہ  
 روایت جو کسی دشمن اسلام نے محض صحابہؓ و تابعین کے  
 وامن عصمت کو داغدار کرنے کے لئے ہی تراشی  
 ہے۔ روایت پرستی کے رجحان کے تحت تاریخی  
 کتب میں درج کر لی گئی۔

۸۔ ودوی ترمذی..... عن سلمی قالت:  
 دخلت علی ام سلمة وھی تبکی۔ فقلت ما یبکیک؟  
 فقالت: رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی  
 راسہ ولحیتہ توأب۔ فقلت: مالک یا رسول  
 قال: شهدت قتل الحسین آنفا۔

ترجمہ:- اور ترمذی نے بیان کیا ہے..... کہ  
 سلمی بیان کرتی ہیں۔ کہ ام المؤمنین ام سلمہؓ کے ہاں  
 گئی اور وہ رو رہی تھیں۔ میں نے دریافت کیا آپ  
 کو کس بات نے رُلا یا ہے۔ پس انہوں نے فرمایا کہ  
 میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا  
 کہ ان کے سر اور ڈاڑھی مبارک پر مٹی پڑی ہوئی تھی  
 میں نے عرض کی اسے اللہ کے رسول آپ کے ساتھ  
 کیا واقع ہوا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں اس وقت  
 مقتل حسینؓ سے آیا ہوں۔

البدایہ والنہایہ، ج ۸، ص ۴۷۱

یہ روایت بھی اسی طرح ناقابل اعتماد ہے کہ سیدہ  
ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا جو اس کی بیان کرنے  
والی ہیں۔ وہ یزید بن معاویہ کی خلافت کے انعقاد سے  
پہلے ۵۹ھ میں فوت ہو چکی تھیں۔ امام ترمذی نے اس  
حدیث کو سلمیٰ نامی مجہول راوی کی وجہ سے غریب حلیت  
کہا ہے۔

میں نے البدایہ والنہایہ سے یہ آٹھ حوالہ جات  
نقل کئے ہیں۔ اب ذیل میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ  
علیہ کا ایک ملاحظہ ہو۔

۱۹۔ وللشیعة والرافضة فی صفة الحسین کذب  
کثیر و اخبار باطله، و فیما ذکرنا کفایة۔ و فی  
بعض ما اوردناه نظر۔ ولولا ان ابن جریر  
وغیره من الحفاظ والادکمة ذکر وہ ماسقتہ  
و اکثرہ من دوائیة ابی مخنف لوط بن یحیی  
وقد کان شیعیاً۔ وهو ضعیف الحدیث عند  
الادکمة۔

ترجمہ: اور شیعہ اور رافضیوں کے پاس حضرت  
حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بارے میں بہت سی جھوٹی اور  
باطل خبریں ہیں۔ جن کا ہم نے ذکر کیا ہے۔ وہ کافی  
ہیں۔ اور جو روایتیں ہم نے درج کی ہیں ان میں سے  
بعض محل نظر ہیں۔ اور اگر ابن جریر (طبری) اور دیگر

آئمہ و حفاظ ان کو نقل نہ کرتے تو ہم بھی ان کو درج نہ کرتے۔ ان میں سے اکثر روایات تو ابو مخنف لوط بن یحییٰ سے مروی ہیں۔ اور وہ شیعہ تھا۔ اور آئمہ فن حدیث کے نزدیک ضعیف ہے۔

(البدایہ والنہایہ، ج ۸، ص ۲۰۲)

اوپر درج کی جانے والی روایت سے قارئین کو اندازہ ہو چکا ہو گا۔ کہ ہماری کتب تاریخ میں درست کے ساتھ غلط روایات بھی ہیں۔ اور کوئی بھی غلط روایات کو پیش کر کے دوسری تصویر بھی پیش کر سکتا ہے۔

بہر حال میں نے اپنی زیر نظر تصنیف میں یہی ایک بنیادی اصول <sup>مشکل</sup> رکھا ہے۔ کہ قرآن و حدیث میں صحابہ کے بیان کئے گئے بلند پایہ کردار کے خلاف کسی روایت کو اہمیت نہیں دینی اور اس کے ساتھ صحابہ کے چشم دید مشاہدات اور ان کے واضح موافق کے مقابلہ منقطع، مجہول الاسم راویوں کی روایات شیعہ یا ضعیف راویوں کی روایات کو کوئی اہمیت نہیں دی ہے۔

آخر میں ایک بات کا ذکر کر کے اپنی گزارش کو ختم کر رہا ہوں۔ بعض لوگ ابو داؤد شریف کی روایت سے غلط طور پر استدلال کرتے ہیں۔



کہ جہاد قسطنطنیہ میں امیر لشکر عبدالرحمن بن خالد بن ولید تھے۔ حالانکہ اس حدیث میں امیر لشکر کے بارے میں راوی کا اپنا بیان ہے جو اس حدیث کا حصہ نہیں ہے۔ اور اسی حدیث کو امام ترمذی نے بھی بیان کیا ہے۔ مگر امیر لشکر کے نام اور لہجہ بیان نہیں کیا ہے۔ ملاحظہ ہو۔

۱۱۔ حدثنا احمد بن عمرو بن السرح نا ابن وهب عن حيوة بن شريح وابن لهيعة عن يزيد بن ابي حبيب عن اسلم ابى عمران

قال غزونا من المدينة فريد القسطنطينيه و  
على الجماعة عبد الرحمن بن خالد بن  
الوليد والروم۔ الخ

ترجمہ: احمد بن عمرو بن سرح نے ابن وہب سے بیان کیا۔ اس نے حیوہ بن شریح اور ابن لہیعہ سے۔ انہوں نے یزید بن ابی حلیب سے۔ انہوں نے اسلم ابی عمران سے بیان کیا۔ کہ اسلم ابی عمران کہتے ہیں۔ کہ ہم مدینہ سے جہاد کے لئے نکلے قسطنطنیہ اور رومی علاقوں کے ارادہ سے اور جماعت پر عبدالرحمن بن خالد بن ولید امیر عسکر تھے۔

اس حدیث پر شارح ابو داؤد کا تبصرہ

ملاحظہ ہو۔

وعلى الجناحة اى امير صمد هذا القبط  
المولف وعند الترمذى -

ترجمہ: اور اس وقت جماعت پر یعنی ان کا  
امیر (عبدالرحمن بن خالد بن ولید تھے) یہ الفاظ  
مولف (امام ابو داؤد) کے اپنے ہیں۔ کیونکہ ترمذی  
شرفین کی روایت میں عبدالرحمن بن خالد بن ولید  
کا ذکر نہیں ہے۔ (عون المعبود۔ ج، ۲، ص ۳۲)۔  
میں نے کردار امیر یزید کے باب میں اس  
پر تفصیلی گفتگو کی ہے۔ تاہم چونکہ یہ جہاد می مہم  
چھ ماہ تک جاری رہی تھی۔ اور اس بات کا امکان  
ہے کہ ان چھ ماہ کے دوران امیر یزید نے جو  
کہ صیہ سالار اعظم تھے۔ مختلف افراد کو حملہ  
کے لئے روانہ کیا ہو۔ جس طرح جنگ خیبر کے  
موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف  
صحابہ کو بدل بدل کر لڑنے کے لئے بھیجا تھا۔  
اگر معاملہ اسی طرح ہو تو پھر کوئی اشکال باقی نہیں  
رہتا ہے۔ تاہم قسطنطنیہ پر صرف دو مرتبہ  
حملہ ہوا ہے۔ جس کا ذکر ذیل میں ہے۔ اس  
کے علاوہ کوئی اور تیسرا حملہ ہوا ہو۔ اور وہ  
ہی پہلا لشکر بھی ہو تو ندی کے لئے دلیل پیش

۱۰ باب فی قولہ عزوجل۔ ولا تلقوا یا ایدیکم الی التہلکة۔

کرنا لازم ہے۔

اور آخر میں امام ابن حزم کا بیان بابت لشکر  
قسطنطنیہ ملاحظہ ہو۔

القسطنطنیة بحاصرها المسلمون  
مرتين. مرة في ايام معاوية وعلى  
الجيش يزيد ابنه. وهتالك مات ابو  
اليوب الانصاري صاحب رسول الله صلى  
الله عليه وسلم وقبرة هتالك محفوظ  
مشهور الى اليوم.

ومرة ثانية في ايام سليمان بن  
عبد الملك وصاحب الجيش مسلم  
بن عبد الملك.

ترجمہ: قسطنطنیہ شہر کا مسلمانوں نے دو مرتبہ  
محاصرہ کیا۔ ایک دفعہ حضرت معاویہؓ کے دور  
خلافت میں۔ اور اس وقت امیر لشکر ان کا  
فرزند یزید پدھتھا۔ اور وہیں ابو الیوبؓ انصاری  
میزبان رسولؐ ثروت ہوئے۔ اور ان کی قبر آج تک  
وہاں محفوظ و مشہور ہے۔

اور دوسری مرتبہ سلیمان بن عبد الملك  
کے دور خلافت میں۔ اس وقت امیر لشکر  
مسلم بن عبد الملك پدھتھا۔

درج ذیل مع السیرة ، ص ۲۲۵  
 میں اس تفصیلی تمہید پر معذرت خواہ  
 ہوں۔ امید ہے قارئین اسے ضرور مفید  
 پائیں گے۔

راقم  
 محمد ادریس ہاشمی

# پہلا باب

## خلافت و انعقاد خلافت

نحمدہ و نصلی علی رسولنا الکریم۔

اسلام ایک خدائی ضابطہ ہے۔  
جو کائنات کے خالق و مالک

### نظام خلافت

حقیقی نے جو عظیم و خیر بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ اپنے بندوں کی  
فلاح و بہبود کے لئے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ  
علیہ وسلم پر نازل فرمایا جو خاتم النبیین و المعصومین ہیں۔ چونکہ آپ  
کے بعد اب کوئی نیا نبی اور نہ ہی نئی شریعت آنے والی تھی اس  
لئے اس آخری آسمانی ضابطہ میں قیامت تک انسانیت کو فلاح  
و بہبود کے لئے راہ نما اصول دیے گئے ہیں۔ اگر ان سے  
ذہنی مرعوبیت اور عجزی و یورپی لادینی افکار کی ذہنی غلامی سے  
آزاد ہو کر اسلام کے اپنی اصولوں کا جائزہ لیا جائے تو ہمیں  
معیشت و معاشرت، عدل و انصاف، امن و جنگ، فرد و  
اجتماع، راکی و رعایا، حقوق العباد، اصلاح معاشرہ، اور جرائم کی  
سزا کی وغیرہ زندگی کے ہر شعبے میں ان سے راہ نمائی و روشنی  
ملتی ہے۔

معاشرت کے میدان میں ہمیں اسلام اجتماعی زندگی اختیار کرنے اور قرآن و سنت پر عمل کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے **(واعلموا بحبل اللہ جمیعاً ولا تفرقوا)** (آل عمران، پی) **واعلموا**

ترجمہ: اور اللہ کی رسی کو اکٹھے ہو کر مضبوطی سے تھام لو۔ اور فرقے فرقے مت بن جاؤ۔ اسی حکم الہی کی تشبیح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مختلف فرامین میں کی ہے۔

علیکم بالجماعة (جامع ترمذی باب فی لزوم الجماعة) ترجمہ: تم پر جماعت کا پکڑنا لازم ہے۔

ید اللہ علی الجماعة ومن شذّ شذّ فی النار مشکوٰۃ ترجمہ: جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ (حضرت ومدد حاصل ہوئے ہیں) اور جو شخص جماعت سے الگ ہوا وہ جہنم میں ڈالا جائے گا۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قدر اجتماعی زندگی کے بارے میں تاکید فرمائی ہے۔ اسی قدر اطاعت امیر اور جماعت سے علیحدگی کے بارے میں خدمت بیان فرمائی ہے۔ تاکہ نظم جماعت و ریاست قائم رہ سکے۔ جماعت سے علیحدگی کو باعث دخول نار اور اسی حالت میں اگر موت آجائے تو اسے جاہلیت کی موت سے تعبیر فرمایا۔ امیر و امام کی اطاعت کو عین خدا اور رسول کی اطاعت قرار دیا۔ حضرت ابو ہریرہؓ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ

علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔  
 من یطع الامیر فقد اطاعنی ومن یعص الامیر  
 فقد عصانی۔ (بخاری، مسلم، بحوالہ مشکوٰۃ کتاب الامارۃ  
 والقضاہ ترجمہ ۱۔ جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے  
 میری اطاعت کی۔ اور جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے  
 میری نافرمانی کی۔)

من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات  
 ميتة جاهلیة۔ (صحیح مسلم، مشکوٰۃ حوالہ مذکور)  
 ترجمہ ۱۔ جو شخص امام یا امیر کی اطاعت سے نکلے  
 اور مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہوتا ہے۔ تو اس کا  
 مرتا جاہلیت کی موت ہوتا ہے۔  
 علاوہ ازیں ایک امیر و امام کی تکمیل بیعت کے بعد  
 اگر کوئی دوسرا خلافت کا دعویٰ کرے اچھے تو اس کو قتل کر  
 دیا جائے گا۔ حضورؐ کا ارشاد ہے۔  
 اذا بویع لخلیفتین فاقتلوا الآخر کاٹنا من  
 کان۔ ترجمہ ۱۔ جب دو خلفاء کے لئے بیعت لی جائے  
 تو ان میں جو دوسرا شخص بیعت کا تقاضا کرے تو اسے  
 قتل کر دیا جائے۔ خواہ وہ کوئی بھی ہو۔

شرعی اصطلاح میں خلیفہ امیر  
 اور امام تینوں ہم معنی اور

العقار خلافت

ایک دوسرے کے مترادف الفاظ ہیں۔ ان سب سے مراد

اسلامی ریاست کا سربراہ ہے۔ جو قرآن و سنت کے مطابق ریاست کا انتظام چلاتا ہے۔ جسے مسلمانوں کی ایک جماعت امیرین نے اور باقی ان کی تائید کر دیں یا فوت ہونے والا امام دوسرے کو نامزد کر دے۔ وغیرہ۔ اسلام میں خاندان یا رشتہ داری اور خدائی تقرر سے امام کے مقرر کئے جانے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اسلام نے امیر کے تقرر کے لئے کوئی طریق متعین نہیں فرمایا ہے۔ اور یہی اسلام کی حکمت کا مظہر ہے۔ کہ اگر ایسی صورت حال پیدا ہو جاتی کہ اس کے متعین کردہ طریق کار کو نہ اپنایا جاسکتا تو پھر امت کے لئے مشکل بن جاتی۔ اس لئے امیر کے تقرر کے معاملہ کو امت کی صوابدید پر چھوڑ دینا کہ وہ مواقع کی مناسبت سے جس طرح چاہے اقدام کرے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت  
بروز پیر، ۱۲، ربیع الاول ۱۱ھ

## خلافت اول

کی صبح کو کچھ سنبھلی اور صحابہؓ کو گمان ہوا کہ آپ بالکل ٹھیک ہیں۔ چنانچہ دوسرے بہت سے صحابہؓ کرام کی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے مکان پر تشریف لے گئے۔ جو نواح مدینہ میں مقام سبخ پر واقع تھا۔ حضور کا انتقال ۱۲ ربیع الاول ۱۱ھ کو پیر کے دن بارہ بجے حجرہ عائشہ میں ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ کو جب اطلاع ہوئی تو گھوڑے



پر سوار ہو کر واپس آئے۔ ملاحظہ ہو۔

اخبرنی ابوسلمة ان عائشة رضى الله عنها زوج النبي  
صلى الله عليه وسلم اخبرته قالت اقبل ابو بكر  
رضي الله عنه على فرسه من مسكنه بالسبخ حتى نزل  
فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة  
رضي الله عنها فتميم النبي صلى الله عليه وسلم وهو  
مسيئ ببرد حبرية فكشفت عن وجهه ثم اكب  
عليه فقبلته ثم بكى فقال يا بني انت يا بني الله لا  
يجمع الله عليك موتتين اما الموتة التي كتبت عليك  
فقد متها قال ابوسلمة فاخبرني ابن عباس  
رضي الله عنهما ان ابا بكر رضي الله عنه خرج و  
عمر رضي الله عنه يكلم الناس فقال اجلس فابى  
فقال اجلس فابى فتشهد ابو بكر رضي الله  
عنه فقال اليه الناس وتركوا عمر فقال اما  
بعد فمن كان منكم يعبد محمداً صلى الله عليه  
وسلم فان محمداً صلى الله عليه وسلم فقد مات  
ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت قال  
الله تعالى وما محمد الا رسول — الى شاكرين  
بخاري شريف - ٥ - كتاب الجنائز - باب الدخول  
على الميت بعد الموت

ترجمہ ۱۔ ابوسلمہ حضرت عائشہ صدیقہؓ تزوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم

نے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے بیان کیا رسول اللہ کے انتقال کے بعد کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے گھوڑے پر مقام سبخ سے آئے۔ یہاں تک کہ گھوڑے سے اترے۔ اور مسجد میں داخل ہو گئے۔ پس انہوں نے لوگوں سے کوئی بات نہیں کی یہاں تک کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قصد کیا۔ آٹ کو جبرہ (سے آئی ہوئی) چادر اڑھا دی گئی تھی۔ ابو بکر نے صنوڑ کے چہرے سے چادر ہٹائی۔ پھر آپ پر جھکے اور آپ کے چہرے کو بوسہ دیا۔ پھر رو دیے اور فرمایا۔ اے اللہ کے نبی آپ پر میرے بیاباں قدموں۔ اللہ آپ پر دو موتیں جمع نہ کرے گا۔ وہ موت جو آپ کے لئے مقدر تھی وہ آپ کی ہے۔ ابو سلمہ کا بیان ہے کہ مجھے عبد اللہ بن عباس نے خبر دی کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نکلے اور عمرؓ لوگوں سے گفتگو کر رہے تھے۔ ابو بکر نے ان سے کہا بیٹھ جاؤ۔ انہوں نے انکار کیا۔ ابو بکر نے پھر کہا بیٹھ جاؤ۔ انہوں نے انکار کیا۔ چنانچہ ابو بکر نے تشہد پڑھا۔ لوگ ان کی طرف متوجہ ہوئے اور عمرؓ کو چھوڑ دیا۔ ابو بکر نے کہا۔ اتنا بعد تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا۔ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں۔ اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ تو اللہ زندہ ہے۔ اسے موت نہیں آئے گی۔

اور قرآن کی یہ آیت پڑھی۔ وما محمد الا رسول  
الی شاکرین (دال عمران)

حضرت ابو بکر صدیق  
رضی اللہ عنہ ابوی  
اجتماع سقیفہ بنو ساعدہ

اس معاملہ سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ کسی نے مسجد نبویہ  
کے باہر سے ابو بکرؓ و عمرؓ کو آواز دے کر سقیفہ میں  
انصار کے جمع ہونے اور ان کے امر خلافت کے بارے  
میں گفتگو کرنے کے بارے میں اطلاع دی۔ ملاحظہ  
بینما نحن فی منزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

اذا رجل ینادی من وراء الجدار ان اخرج  
الی یا بن الخطاب فقلت الی عنی فانا عتد  
مشاعیل یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ  
وسلم فقال له قد حدث امر فان الانصار  
اجتمعوا فی سقیفۃ بنی ساعدۃ فادركوهم  
ان یحذروا امرایکون فیہ حرب فقلت  
لابی بکر انطلق۔ (فتح الباری ج ۷ ص ۲۳)

ترجمہ: حضرت عمرؓ کا بیان ہے کہ ہم رسول اللہ صلی  
اللہ علیہ وسلم کے خانہ مبارک میں بیٹھے تھے کہ دفعہ  
دریوار کے پیچھے سے کسی نے آواز دی۔ اسے ابن  
الخطابؓ حضرت عمرؓ نے ذرا باہر آؤ۔ میں نے کہا چلو  
ہٹو ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بند و بست

بن مشنول ہیں۔ اس نے کہا کہ ایک حادثہ پیش آیا ہے یعنی  
 انصار سقیفہ بنی ساعدہ میں اکٹھے ہوئے ہیں۔ پس جلدی  
 ان کے پاس پہنچو۔ ایسا نہ ہو کہ انصار کچھ ایسی باتیں  
 کر اٹھیں۔ جس سے لڑائی چھڑ جائے۔ میں نے ابو بکرؓ سے  
 کہا چلو۔

چنانچہ ابو بکرؓ و عمرؓ سقیفہ بنو ساعدہ پہنچے۔ وہاں انصار  
 جمع تھے۔ ان کے ساتھ مسئلہ خلافت پر گفتگو کی۔ اور  
 بالآخر حضرت ابو بکرؓ نے کہا۔ حضرت عمرؓ اور حضرت ابو  
 طلحہؓ میں سے کسی ایک کے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔ اس  
 پر پھر انصار کی طرف سے دو امیروں کی تجویز آئی۔ اس  
 پر شور بلند ہوا۔ حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ مجھے اختلاف  
 کا اندیشہ ہوا۔ چنانچہ میں نے حضرت ابو بکرؓ سے کہا ہاتھ  
 بڑھائیے۔ چنانچہ انہوں نے ہاتھ بڑھایا اور حضرت عمرؓ  
 نے بیعت خلافت کر لی۔ اس کے بعد مہاجرین میں سے  
 معدودے چند لوگ جو ہاں موجود تھے۔ نے اور انصار  
 نے بیعت کر لی۔ اس اجتماع میں مہاجرین کی تعداد بڑے تمام  
 پانچ پانچ تھی۔ انصار کی تعداد بھی پوری تھی۔ اور نہ ہی  
 نہ ہاشم میں سے کوئی اس اجتماع میں موجود تھا۔ اس طرح  
 پہلی خلافت کا انعقاد عمل میں آیا۔ اسے انتخاب کے  
 مترادف قرار دینا اور اس کے علاوہ مغرب کی مادر  
 پدر آزاد جمہوریت (پارلیمانی یا صدارتی) جس میں سروں

کو گنا جاتا ہے بندوں کو تو لانا نہیں جاتا کو اسلام کے شورائی  
نظام کے مطابق قرار دینا جناب چھٹے صاحب جیسے بالغ  
نظر اور صاحب بصیرت سیاستدانوں کا ہی کام ہے۔

سقیفہ بنو ساعدہ کے علاوہ  
اجتماعِ بیتِ فاطمہ

سیدنا علیؑ اور سیدنا زبیرؓ  
حضرت علیؑ کے گھر میں جمع تھے۔ اور خلافت کو نبوہاشتم میں لانے  
کے معاملہ پر غور کر رہے تھے۔ ملاحظہ ہو۔

كان من خيرة فاضلين توفي الله عليه ان  
الانصار قد خالفونا واجتمعوا باسراهم  
وخالفنا علي والزبير ومن معهما واجتمع  
المهاجرين الى ابى بكرؓ۔ (بخاری شریف۔ ۲۸۔)

کتاب الحدود باب رجم الجلی

ترجمہ۔ جس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیؐ کو فوت کیا  
اس وقت کی ہماری حالت یہ تھی کہ انصار نے ہماری  
مخالفت کی اور سقیفہ بنو ساعدہ میں جمع ہوئے۔ اور حضرت  
علیؑ و زبیرؓ اور ان کے ساتھیوں نے بھی مخالفت کی اور  
مہاجرین ابو بکرؓ کے پاس جمع ہوئے۔

دوسری روایت میں یہ واقعہ اور زیادہ صاف ہو  
گیا ہے۔

وان عليا والزبير ومن كان معهما تخلفوا  
في بيت فاطمة بنت رسول الله۔ (فتح الباری۔)

حوالہ الفاروق ص ۱۱۶۔ مصنف شبلی نعمانی۔  
ترجمہ ۱۔ اور حضرت علیؑ اور زبیرؓ اور جو ان کے ہم  
خیال تھے۔ وہ حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ  
علیہ وسلم کے گھر میں جمع ہوئے۔

وَتَخَلَّفَ عَلِيٌّ وَ  
الزَّبِيرُ وَاخْتَرُوا

الزَّبِيرُ سَيْفُهُ وَقَالَ لَا أَعْمَدُهُ حَتَّى يَبَايِعَ  
عَلِيٌّ (رج، ۳، ص ۱۹۹)۔

ترجمہ ۱۔ اور حضرت علیؑ اور زبیرؓ الگ ہو گئے اور  
زبیرؓ نے تلوار میان سے نکال کر کہا جب تک علیؑ کی  
بیت خلافت نہ کی جائے گی میں تلوار کو میان میں نہ  
ڈالوں گا۔

اب تک کی گفتگو سے پہلی خلافت کے انعقاد کے  
بارے میں یہ بات واضح طور پر سامنے آچکی ہے کہ  
سیدنا صدیق اکبرؓ کی خلافت کے انعقاد کے وقت صرف  
مدینہ منورہ کے لوگوں نے اور وہ بھی پورے طور پر  
نہیں بلکہ جزوی طور پر بیعت خلافت کی۔ جس کی تائید  
اگلے دن سارے اہل مدینہ نے ایک دو افراد کے سوا  
مسجد نبوی کے اجتماع میں کر دی۔ اور اسے ہی پوری  
اسلامی ریاست کی بیعت تصور کیا گیا۔

## خلافت ثانی - نامزدگی

جب حضرت ابو بکر  
رضی اللہ عنہ

کی موت کا وقت قریب آیا تو آپ نے چیدہ چیدہ صحابہ کرام سے حضرت عمرؓ کے بارے میں رائے طلب کی۔ اکثر نے مزاج کی سختی کا ذکر کیا۔ مگر حضرت ابو بکرؓ نے اپنی رائے کو مقدم رکھا۔ اور حضرت عمرؓ کو اپنے بعد خلیفہ نامزد کر دیا۔

وانی قد استخلفت علیکم عمر بن الخطاب  
فاسمعوا له واطیعوا فقالوا سمعنا واطعنا۔  
ترجمہ - اور میں نے تم پر عمر بن خطاب کو خلیفہ مقرر  
کیا ہے۔ ان کی بات کو سنو اور ان کی اطاعت کرو پس  
انہوں نے صحابہؓ نے عرض کی ہم نے آپ کی بات کو سنا  
اور اسے تسلیم کیا۔ (طبری، ج ۴، ص ۱۱۱)

ثم امرت فخرج بالكتاب مختوماً ومعه  
عمر بن الخطاب و اسید بن سعید القرظی  
فقال عثمان للناس اتبايعون لیمن فی هذا  
الكتاب فقالوا نعم۔ وقال بعضهم (قال  
ابن سعد علی القائل) وهو عمر فاقدروا  
بذلک جميعاً ورضوا وایعوا۔

ترجمہ - پھر (ابو بکرؓ نے) انہیں (حضرت عثمانؓ)  
مہر لگی ہوئی وصیت کے ساتھ جانے کا حکم دیا۔ پس

وہ حضرت ابو بکرؓ کے پاس سے نکلے اور ان کے ساتھ  
 حضرت عمرؓ بن خطاب اور اسید بن سعید قرظی تھے پس  
 عثمانؓ نے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا۔ کیا تم اس آدمی  
 کی بیعت خلافت کرو گے۔ جس کے لئے اس تحریر میں  
 درج ہے۔ پس لوگوں نے کہا۔ ہاں۔ اور بعض نے  
 کہا۔ (ابن سعد کہتے ہیں کہ وہ کہنے والے علیؓ ہیں) وہ  
 عمرؓ نہیں (جس کے بارے میں وصیت ہے) پس سب  
 لوگوں نے اقرار کیا اور وہ اس سے راضی و خوش ہو گئے  
 اور بیعت کی (طبقات ابن سعد۔ ج ۳، ص ۱۲۲)

لما نزل ابو بکر اشرف الناس من كرتة  
 فقال يا ايها الناس اني قد عهدت عهداً  
 افترونون به فقال الناس قد رضينا يا  
 خليفة رسول الله - فقال علي لا نرضى الا  
 ان يكون عمر بن الخطاب - (اسد الغابہ فی  
 معرفة الصحابہ، ج ۴، ص ۴۰)

ترجمہ :- جب ابو بکرؓ کا مرض شدت اختیار کر گیا۔ تو  
 آپ کھڑکی میں سے لوگوں کے سامنے آئے اور فرمایا  
 اے لوگو میں نے ایک عہد لیا ہے کیا تم اس سے راضی  
 ہو۔ پس لوگوں نے کہا اے خلیفہ رسول اللہؐ بے شک  
 ہم راضی ہیں۔ پس علیؓ نے کہا۔ ہم حضرت عمرؓ بن خطاب  
 کی خلافت کے سوا کسی اور بات پر راضی نہ ہوں گے۔



وفي اثناء هذا الموضع عهد بالامور من  
بعده الى عمر بن الخطاب وكان الذي كتب  
العهد عثمان بن عفان وقرى على المسلمين  
فاقروا به وسمعوا له واطاعوا۔

(البيدایہ والنہایہ۔ ج ۱، ص ۱۸)

ترجمہ۔ اور اسی بیماری کے دوران اپنے (ابوبکرؓ) نے  
بعد حضرت عمرؓ کی خلافت کا عہد لیا۔ اور جس نے عہد  
لکھا وہ عثمان بن عفان تھے۔ انہوں نے ہی وہ عہد نامہ  
لوگوں کو سنایا۔ پس انہوں نے اس پر عمل کرنے کا اقرار  
کیا۔ اور ان (حضرت عمرؓ) کی بات کو سنا اور ان کی اطاعت  
کی۔

مذکورہ بالا حوالہ جات سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ

نامزدگی کی بدعت

سب سے پہلے بنی امیہ نے ہمیں سیدنا ابوبکر  
صدیق اکبر افضل البشر بعد الانبیاءؑ نے کی۔ جس کی صحابہؓ  
نے تائید کی۔ گویا اس مسئلہ پر صحابہ کرام کا عظیم الشان  
اجماع ہوا۔ جو کہ دینی معاملات میں ایک مستقل سند کی  
حیثیت رکھتا ہے۔ نہ معلوم چٹھہ صاحب نے کس طرح بغیر  
تحقیق کے یہ سطنی بات لکھ دی ہے۔ علاوہ ازیں اس  
دوسری خلافت کی نامزدگی میں ہمیں کسی پارلیمانی یا صدرتی  
نظام کی کوئی جھلک نظر نہیں آتی ہے۔ اسلامی ریاست میں

کوئی انتخاب نہیں ہوا۔ پہلے خلیفہ نے اپنے جانشین کو نامزد کیا ہے۔ اور صرف مدینہ النبی میں بیعت کو ہی کافی تصور کیا گیا۔ باقی جملہ شہروں میں اس کی توثیق کرائی گئی۔ اگر مدینہ میں جو کہ دار الحکومت تھا، بیعت ہو جانے کے بعد کوئی بھی علاقہ اس سے انکار کرتا تو اس کے خلاف کارروائی کی جاتی۔

جب سیدنا عمر فاروق کو ایرانی مجوسی ابو لؤلؤ فیروز غلام نے

## امامت ثالث

خنجر مار کر زخمی کر دیا۔ (وضیح یہ ہے اس قاتل عمر بن کافر کا مزار ایران کے شہر قم میں ہے۔ جہاں عرس لگتا ہے۔ اسے بابا شجاع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے) اور آپ کے بچنے کی امید نہ رہی تو صحابہؓ نے عرض کی اے امیر المؤمنین ہمیں اپنے بعد کسی دوسرے شخص کی خلافت کے بارے میں وصیت کر جائیے۔

فقالوا اوص یا امیر المؤمنین۔ استخلف قال ما اجد احق بهذا الا من هو لآء اللہ او الرہط الذین توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو عنہم راض۔ فسمی علیاً و عثمان والزبیر وطلحة وسعد وعبید الرحمن (بخاری شریف۔ ۱۲۱۔ باب قصۃ البیعت والاتفاق علی عثمان)

ترجمہ:- لوگوں نے عرض کی اے امیر المؤمنین کسی کو

خلیفہ مقرر کر جائیے۔ تو انہوں نے حضرت عمرؓ نے فرمایا میں ان لوگوں سے کسی کو خلافت کا زیادہ حق دار تصور نہیں کرتا۔ یہ وہ لوگ (افراد) ہیں جن سے حضور وفات کے وقت راضی و خوش تھے۔ پس انہوں نے حضرت علیؓ، حضرت عثمانؓ، حضرت طلحہؓ، حضرت زبیرؓ، حضرت سعد بن ابی وقاصؓ اور حضرت عبدالرحمن بن عوف کے نام لئے۔

و اوصیٰ عمرا ان یکون الامر شورى بعدہ فی ستة ممن توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وھو عنھم راض و عنھم عثمان و علی و طلحہ و الزبیر و عبد الرحمن بن عوف و سعد بن ابی وقاص (البدایہ والنہایہ، ج ۱، ص ۱۳۱)

ترجمہ: اور حضرت عمرؓ نے خلافت کے بارے میں چھ افراد کو وصیت کی۔ جن میں حضرت عثمانؓ، علیؓ، طلحہؓ، زبیرؓ، عبدالرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص شامل ہیں۔ اور جن سے بوقت وفات حضور راضی تھے۔ کہ وہ باہم مشورے سے خلافت کا فیصلہ کر لیں۔ اور ان چھ افراد میں سے ہی کسی ایک کو خلیفہ منتخب کر لیں۔

علیکم طوٰلاء السوط الذین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انھم من اهل الجنة سعید بن زید بن عمر و بن نفیل منھم و لست مدخلہ و لکن الستہ علی و عثمان ابنا عبد مناف و عبد الرحمن

وسعد اخلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و  
 الزبیر بن عوام حواری رسول اللہ صلی اللہ  
 علیہ وسلم وابن عمتہ وطلحة الخیر ابن عبید اللہ  
 فلیختاروا متھم رجلاً۔ (طبری ماج، ۵، ص ۳۳۲)  
 ترجمہ:- اور تم ان لوگوں کو لازم پکڑو جن کے بارے میں  
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جلتی ہیں۔ ان  
 میں سعید بن زبیر بھی ہیں۔ مگر میں ان کو امر خلافت میں شامل  
 نہیں کروں گا۔ البتہ یہ چھ افراد جن میں علی بن عثمان بن عبد مناف  
 سے ہیں اور عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص رسول  
 اللہ کے ماموں ہیں۔ زبیر بن عوام حواری رسول اور آپ  
 کے چھوٹی زاد ہیں۔ اور طلحہ الخیر بن عبید اللہ ہیں پس ان  
 میں سے کسی ایک کو خلیفہ بنا لو۔

ان عم بن الخطاب لما حضر قال ان استخلف  
 فسنة والذ استخلف فسنة۔ توفی اللہ رسول  
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم یستخلف وتوفی  
 اللہ ابوبکر فاستخلف فقال علی۔ فعرفت  
 واللہ انہ لن یعدل بسنة رسول اللہ صلی اللہ  
 علیہ وسلم فذ ای حین جعلها عم شورحاً  
 یبن عثمان ابن عفان وعلی بن ابی طالب والزبیر  
 وطلحة وعبد الرحمن بن عوف وسعد  
 ابن ابی وقاص۔ (طبقات ابن سعد ج، ۳، ص ۳۳۲)

ترجمہ ۱۔ جیب عمرہ کا آخری وقت آیا۔ تو انہوں نے کہا۔  
 اگر میں خلیفہ نامزد کروں تو یہ بھی سنت ہے۔ اور اگر نہ  
 نامزد کروں تو یہ بھی سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ  
 وسلم فوت ہوئے تو انہوں نے کسی کو نامزد نہ فرمایا۔ اور  
 ابو بکرؓ فوت ہوئے تو انہوں نے اپنا جانشین مقرر فرمایا۔  
 حضرت علیؓ نے فرمایا۔ پس میں نے سمجھ لیا۔ کہ حضرت عمرؓ  
 حضورؐ کی سنت سے نہیں ہٹیں گے۔ پس اسی طرح حضرت  
 عمرؓ نے عثمان بن عفان۔ علی بن ابی طالب۔ زبیرؓ۔ طلحہؓ۔  
 عبد الرحمن بن عوف۔ اور سعد بن ابی وقاص پر مشتمل مجلس  
 (مشاورتی) نامزد فرمائی۔

بالآخر لوگوں کے اصرار پر حضرت علیؓ عثمانؓ زبیرؓ طلحہؓ  
 سعدؓ اور عبد الرحمن بن عوفؓ چھ آدمیوں کو حین کی اسلام میں  
 بڑی خدمات تھیں۔ اور جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  
 نے جنت کی بشارت دی تھی۔ نامزد کر کے فرمایا۔ ان میں  
 جس پر کثرت رائے ہو جائے۔ اسے امیر بنانا اور تاکید  
 کر دی کہ میرے بعد تین دن کے اندر اندر یہ مرحلہ طے  
 ہو جائے۔ اور حضرت صہیبؓ کو حکم دیا کہ میرے دفن  
 سے فراغت کے بعد ان چھ آدمیوں کو ایک مکان کے  
 اندر بند کر دینا۔ اور جب تک ان میں سے کسی کا انتخاب  
 نہ ہو جائے اس وقت تک نہ کھولنا۔

(تاریخ اسلام۔ ص ۱۸۵، شاہ معین الدین ندوی)

التعاوانامت و خلافت سوم سے یہ بات واضح ہوئی  
 کہ یہاں بھی حضرت عمر فاروق نے خلافت کے لئے چھ افراد  
 کو نامزد فرمایا۔ اور ان کے ذمہ پوری امت کے لئے خلیفہ  
 کا تقرر سونپ دیا۔ علاوہ ازیں یہ سب کچھ حضرت عمر نے  
 صحابہ کے اصرار پر کیا۔ گویا صحابہ کے نزدیک بھی نامزدگی  
 جائز تھی۔ ایک ایسا عمل جسے ملت اسلامیہ میں ہمیشہ سے ہی  
 اجماعی حیثیت حاصل رہی۔ اسے نبو امیہ کے ذمہ بدعت  
 کی صورت میں لگانا انصاف کا خون کرنے کے مترادف  
 ہے۔ دوسری بات قابل غور یہ ہے کہ اس انتخاب میں بھی  
 ہمیں پارلیمانی طرف حکومت کی جھلک کہیں نظر نہیں آتی ہے  
 فوت ہونے والا خلیفہ کچھ افراد پر مشتمل کھیل بنا تا ہے۔ وہ  
 اپنے میں سے ایک کو خلیفہ مقرر کر لیتے ہیں۔ اور اس کی  
 بیعت دارالحکومت مدینہ منورہ میں ہوتی ہے۔ باقی صوبوں  
 میں اس کی توثیق ہو جاتی ہے۔ کسی کو اس سے اختلاف کی  
 اجازت یا گنجائش نہیں ہے۔

حضرت عثمان کی مظلومانہ شہادت  
 خلافت چہارم کے بعد قاتلان عثمان آپ کے

جانشین کی طرف متوجہ ہوئے۔ چنانچہ مصری حضرت علیؓ کی  
 طرف آئے۔ کوئی حضرت زبیرؓ کی طرف آئے اور لہرہ والے  
 حضرت طلحہؓ کی طرف آئے اور انہیں خلافت کے لئے آمادہ  
 کیا۔ ان حضرات نے ان کی بیعت لینے سے انکار کر دیا۔

مگر حضرت علیؑ اپنے انکار کو قائم نہ رہ سکے اور انہوں نے بیعت خلافت لے لی۔ چنانچہ سب سے پہلے آت کے ہاتھ پر اشر نخعی نے بیعت کی جو قاتلان عثمانؓ کا لیڈر تھا۔  
 فرجوعوا الی علی فالحو علیہ واخذ الأشر  
 بیدہ فبایعہ ویایعہ الناس۔ واهل الکوفۃ  
 یقولون اول من بایعہ الأشر نخعی۔ (البدایہ  
 والنہایہ، ج ۷، ص ۲۲۷)

ترجمہ۔ پس وہ حضرت علیؑ کی طرف متوجہ ہوئے اور ان پر بیعت لینے کے لئے اصرار کیا۔ اور اشر نے حضرت علیؑ کا ہاتھ پکڑا اور بیعت کر لی۔ اور لوگوں نے بھی بیعت کر لی۔ اور اہل کوفہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اشر نخعی نے بیعت کی۔

حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے حضرت علیؑ کو ان سیایوں کی بیعت قبول کرنے سے منع کیا تھا۔  
 فانک واللہ لئن نہضت مع هؤلاء الیوم  
 لیحملنک الناس دم عثمان عدا۔ فابی علیؑ۔  
 (طبری، ج ۵، ص ۱۶۰)

ترجمہ۔ اگر آپ ان لوگوں کے ساتھ اٹھ کھڑے ہو گئے (بیعت خلافت لے لی) تو کل کو لوگ خون عثمانؓ کے ذریعہ آپ کو ٹھہرائیں گے۔ پس حضرت علیؑ نے ان کے مشورے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔

بہر حال حضرت علیؓ کی بیعت خلافت ہو گئی۔ مگر مدینہ طیبہ کی نصف یا اس سے کچھ کم و بیش آپاری نے آپ کی بیعت سے توقف کیا۔

فان كثيرا من المسلمين اما النصف واما اقل او اكثر لم يبايعوه - ولم يبايعوا سعد بن ابى وقاص ولا بن عمرو

ھما۔ (منہاج السنۃ، ج ۲، ص ۲۳۷۔)

ترجمہ:۔ پس مسلمانوں کی اکثریت نے یعنی نصف یا اس سے کچھ کم یا کچھ زیادہ لوگوں کی تعداد نے حضرت علیؓ کی بیعت نہ کی۔ نہ سعد بن ابی وقاص نے اور نہ ہی حضرت عبداللہ بن عمر نے اور نہ ہی دوسرے صحابہؓ نے۔

انہ لم يبايعه طائفة من الانصار منهم حسان بن ثابت، وكعب بن مالك، ومسلمة بن مخلد، وابوسعيد، ومحمد بن مسلمة والنعمان بن بشير، وزيد بن ثابت، ورافع ابن خديج، وفضالة بن عبيد، و

كعب بن عجرة۔ (البدایہ والنہایہ، ج ۷، ص ۲۳۸۔)

ترجمہ:۔ اور انصار کی ایک جماعت نے حضرت علیؓ کی بیعت نہیں کی۔ ان میں حضرت حسان بن ثابت، حضرت کعب بن مالک، حضرت مسلمہ بن مخلد، حضرت ابوسید، حضرت محمد بن مسلمہ، حضرت نعمان بن بشیر، حضرت زید



بن ثابت، حضرت رافع بن خدیج، حضرت کعب بن عجرہ  
شامل ہیں۔

لما قتل عثمان رضی اللہ عنہ بايعت الانصار  
عليها الا نفيوا يسيرا منهم حسان بن ثابت  
وكعب بن مالك، ومسلمة بن مخلد، وابو  
سعيد الخدري، ومحمد بن مسلمة، و  
التعمان بن بشير، وزيد بن ثابت، ورافع  
بن خديج، وقصالة بن عبيد، وكعب بن  
عجرة۔ (طبری، ج ۵، ص ۱۵۲۔)

ترجمہ: جب حضرت عثمانؓ شہید ہو گئے تو انصار نے  
حضرت علیؓ کی بیعت کر لی۔ ان میں سے حضورؐ سے لوگوں نے  
جن میں حضرت حسان بن ثابت، کعب بن مالک، مسلمہ  
بن مخلد، ابو سعید خدری، محمد بن مسلمہ، نعمان بن بشیر، زید  
بن ثابت، رافع بن خدیج، قصالہ بن عبید، کعب بن عجرہ،  
شامل ہیں۔ حضرت علیؓ کی بیعت نہ کی۔

هرب القوم من المدينة الى الشام ولم يبايعوا  
علياً ولم يبايعه قدامه بن مظعون وعبد الله  
بن سلام والمغيرة بن شعبة۔ (طبری، ج ۵، ص ۱۵۲)  
ترجمہ: مدینہ سے ایک جماعت شام چلی گئی۔ اور انہوں  
نے حضرت علیؓ کی بیعت نہیں کی۔ حضرت قدامہ بن مظعون  
عبداللہ بن سلام، اور مغیرہ بن شعبہ (باڑی گاؤں رسولؐ نے

حضرت علیؑ سے بیعت نہیں کی۔

فلم یبایعوه منهم سويد بن ابی وقاص ومنہما بن  
عمر وصہیب وزید بن ثابت ومحمد بن مسلمة وسلة  
بن وقش واسامة بن زید۔ (طبری، ج ۵، ص ۱۵۵)۔  
ترجمہ: جن لوگوں نے حضرت علیؑ کی بیعت نہیں کی ان میں  
حضرت سعید بن ابی وقاص، حضرت عبد اللہ بن مسعود، حضرت صہیب بن  
زید بن ثابت، محمد بن مسلمہ، سلمہ بن وقش اور اسامہ بن  
زید شامل ہیں۔

قاتلان عثمانؓ سیائیوں نے مدینہ طیبہ میں خوف و ہراس  
کی فضا پیدا کر رکھی تھی۔ اور انہوں نے بعض اکابر صحابہ سے  
جزا حضرت علیؑ کی بیعت لی۔ ملاحظہ ہو۔

عن سعد قال قال طلحة بايعت والسيعة فوق  
راسي فقال سعد لا ادري والسيعة على راسه ام لا  
الا اني اعلم انه بايع كارها۔ (طبری، ج ۵، ص ۱۵۵)۔  
ترجمہ: سعید بن ابی وقاص بیان فرماتے ہیں کہ حضرت طلحہؓ  
نے کہا کہ میں نے (حضرت علیؑ کی) بیعت کی تھی اس حال میں  
کہ تلوار میرے سر پر تھی۔ حضرت سعید فرماتے ہیں۔ میں نہیں  
جانتا کہ تلوار ان کے سر پر تھی یا نہیں۔ مگر یہ جانتا ہوں کہ  
انہوں نے (حضرت طلحہؓ) نے مجبوراً بیعت کی تھی۔

اوپر دیے گئے حالات و واقعات سے یہ بات واضح  
ہو کر سامنے آئی کہ حضرت علیؑ کی بیعت خلافت غیر معمولی

حالات و واقعات میں انعقاد پذیر ہوئی۔ اور ان کے ہاتھ پر مدینہ کے لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے جو نصف کے قریب تھی۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی سرگردگی میں ہزاروں صحابہ و تابعین اور حضرت امیر معاویہؓ کی سرگردگی میں شام کے پورے علاقے نے (جس میں آج کا شام لبنان اردن۔ اور اسرائیل شامل ہیں) حضرت علیؓ کی بیعت نہیں کی ہے۔ اس تمام ترکھلی حقیقت کے باوجود اہل سنت نے کبھی حضرت علیؓ کے آئیٹھا خلیفہ ہونے کا انکار نہیں کیا۔ اور نہ ہی حضرت امیر معاویہؓ نے کبھی حضرت علیؓ کی زندگی میں خود کو امیر المؤمنین کہلوا یا۔ ؟

مدینہ منورہ شروع کی تمام خلافتوں کے انعقاد میں اہم مقام رکھتا ہے۔ اور اہل مدینہ کی بیعت ہی کو باقی صوبہ نجات مملکت اسلامیہ میں کافی تصور کرتے ہوئے اس کی توثیق کی جاتی تھی۔ حضرت علیؓ کی بیعت خلافت مدینہ منورہ میں اگرچہ نامکمل طور پر ہوئی تھی۔ پھر بھی اسے ہی ان کی خلافت کے لئے کافی سمجھا گیا۔ اور لاکھوں افراد کے بیعت نہ کرنے کے باوجود (جن میں عشرہ مبشرہ اور دوسرے جلیل القدر صحابہ شامل تھے) آپ کو خلیفہ راشد ہی مانا گیا۔

خلافت چہارم کا انعقاد پہلی تین خلافتوں سے مختلف حالات میں عمل میں آیا۔ اور ہمیں یہاں بھی چھٹے صاحب موصوف کے پسندیدہ نظام پارلیمانی نظام حکومت کی

کوئی جھلک نظر نہیں آتی ہے۔

حضرت علیؑ کو عبد الرحمن بن ملجم  
خارجی نے کوفہ کی جامع مسجد میں

خنجر مار کر زخمی کر دیا۔ آپ کے ہمراہیوں نے آپ کے زخموں  
کو کاری دیکھتے ہوئے اس خیال سے کہ اب آپ بیخ نہ  
سکیں گے۔ عرض کیا۔ کیا ہم آپ کے بعد حضرت حسنؑ کو  
خلیفہ بنالیں۔؟ تو آپ نے فرمایا۔

وذكر ان جندب بن عبد الله دخل على عليؑ فله  
فقال يا امير المؤمنين ان فقدناك ولا نفقدك  
فنبايع الحسن فقال لا امركم ولا انهاكم۔

(طبري، ج ۴، ص ۸۵)

ترجمہ۔ اور بیان کیا گیا۔ کہ جندب بن عبد اللہ حضرت  
علیؑ کے پاس آئے اور کہا اسے امیر المؤمنین اگر ہم آپ  
کو کھودیں۔ (آپ فوت ہو جائیں) اور خدا کرے ہم آپ  
کو نہ کھودیں۔ تو کیا ہم حضرت حسنؑ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔  
تو آپ نے فرمایا۔ میں نہ اس کا حکم کرتا ہوں اور نہ  
اس سے روکتا ہوں۔

فقال جندب بن عبد الله۔ يا امير المؤمنين ان  
مت نبايع الحسن؟ فقال لا امركم ولا انهاكم انتم

ابصر۔ (البدایہ والنہایہ، ج ۴، ص ۳۲)

ترجمہ۔ جندب بن عبد اللہ نے کہا اسے امیر المؤمنین اگر

آپ فوت ہو جائیں تو ہم حسن سے بیعت کر لیں۔ حضرت  
علیؑ نے فرمایا میں نہ تمہیں اس کا حکم دیتا ہوں۔ اور نہ منع  
کرتا ہوں۔

ودخل عليه الناس يسألونه فقالوا يا امير المؤمنين  
الايه ان قتد ناك ولا نفقدك - انبايع الحسن؟  
قال لا امركم ولا انهاكم وانتم ابصر.

(مروج الذهب، ج ۲، ص ۲۲۵)

ترجمہ۔ اور لوگ حضرت علیؑ کے پاس آئے۔ آپ سے  
پوچھتے تھے۔ انہوں نے کہا۔ اے امیر المؤمنین ہمیں  
مشورہ دیں اگر ہم آپ کو کھودیں۔ (فوت ہو جائیں)  
اور ہم آپ کو نہ گم کریں۔ کیا ہم حسن کی بیعت کر لیں۔  
حضرت علیؑ نے فرمایا۔ نہ میں تمہیں اس کا حکم دیتا ہوں  
اور نہ اس سے روکتا ہوں۔ اور تم اپنے حالات کو  
زیادہ سمجھتے ہو۔

اوپر لکھے حوالہ جات سے یہ بات واضح ہو کر سامنے  
آئی ہے کہ حضرت علیؑ سے جب ان کے بعد حضرت حسنؑ  
کی بیعت خلافت کے بارے میں پوچھا گیا۔ تو انہوں نے  
اس بارے میں اپنی طرف سے کوئی فیصلہ کرنے میں تامل  
برتا۔ مگر انہوں نے حضرت حسنؑ کو اپنے بعد خلیفہ بنانے سے  
لوگوں کو منع نہیں کیا۔ اگر باپ کے بعد بیٹے کا خلافت  
کی مسند پر آنا اسلام میں جائز اور درست نہ ہوتا تو

حضرت علیؑ اس بارے میں دو ٹوک فرمادیتے اور اپنے ہمراہیوں کو اس سلسلہ میں صاف منع فرمادیتے کہ چونکہ باپ کے بعد بیٹے کے مسند خلافت پر آنے سے یہ باوثناہیت اور ملوکیت میں بدل جائے گی۔ اور باپ کے بعد بیٹے کا مسند خلافت پر آنا اسلام کے خلاف اور ناجائز ہے۔ اس لئے تم میرے بعد حسنؑ کو خلیفہ نہ بناتا۔ مگر چونکہ اسلام میں ایسا کوئی واضح حکم موجود نہیں ہے کہ جس سے باپ کے بعد بیٹے کا خلیفہ یا امام بنانا جائز ٹھہرتا ہو۔ اس لئے حضرت علیؑ نے اپنے حواریوں کے سوال پر اس معاملے کو ان کے سپرد کر دیا۔ کہ اگر وہ حضرت حسنؑ کو اس کا اہل پاتے ہیں۔ تو بیعت خلافت کر لیں۔ اور اگر وہ انہیں اس کے خلاف پاتے ہوں۔ تو امیر نہ بنیں۔

دوسری بات یہ بھی سامنے آتی ہے کہ حضرت علیؑ کے ساتھی بھی باپ کے بعد بیٹے کا خلافت پر متمکن ہونا جائز سمجھتے تھے۔ اسی لئے انہوں نے آپ سے حضرت حسنؑ کو نامزد کرنے کی درخواست کی۔

بہر حال اسلام میں خلیفہ کی نامزدگی کا جواز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ایک اجماعی مسئلہ تھا۔ اور حضرت علیؑ کے بعد حضرت حسنؑ کے خلیفہ بن جانے سے باپ کے بعد بیٹے کا خلافت پر آنا بھی ایک اجماعی مسئلہ تسلیم

ہوا۔ حضرت امیر معاویہ نے اپنے بعد مزید کو نامزد کرتے وقت انہی دو مثالوں کو سامنے رکھا۔ اور اس سلسلہ میں انہوں نے ولی عہد کی مزید کے معاملہ کو احتیاطاً پورے عالم اسلام میں رائے شماری کے بعد نچتہ کر دیا۔ امیر معاویہ اگر صرف دارالحکومت دمشق کے ارباب حل و عقد کے مشورہ کے بعد مزید کو ولی عہد نامزد کر دیتے تو ان کے لئے صرف یہی کافی ہوتا۔ اس کے لئے پہلے سے یہ اصول کار فرما رہے۔ کہ دارالحکومت کی بیعت ہی العقاد خلافت کے لئے کافی تصور کی جاتی رہی۔ حضرت علیؑ نے حضرت امیر معاویہ کو خطوط لکھے تھے۔ ان میں اپنی خلافت کے استحقاق کے طور پر اہل مدینہ کی بیعت کو (جو اگرچہ نامکمل تھی) پیش کیا تھا۔ کیونکہ اصحاب شوریٰ اور ارباب حل و عقد مدینہ میں موجود تھے۔

جب مدینہ منورہ کے بعد حضرت علیؑ نے کوفہ کو دارالحکومت بنایا تو اب یہ استحقاق کوفہ کو منتقل ہو گیا۔ جب حضرت حسنؑ کی بیعت خلافت ہوتی ہے۔ تو وہ بھی کوفہ کے لوگوں کے بیعت کرنے سے خلیفہ چنے جاتے ہیں۔ جب کہ اس وقت ان کے زیر قبضہ علاقہ کی حیثیت ایک بڑے سمندر میں صرف ایک جزیرے کی سی رہ گئی تھی۔ پورا شام کا علاقہ۔ مصر۔ شمالی افریقہ۔ حجاز مقدس۔ یمن کا علاقہ سب امیر معاویہ کے زیر تسلط

تھے۔ حضرت علیؑ کے آخری دور میں آپ کی حکومت صرف کوفہ اور نواحی علاقہ پر رہ گئی تھی۔

آج تک اہلسنت نے حضرت حسنؑ کے انتخاب کو بحث کا موضوع نہیں بنایا۔ اور جب حضرت حسنؑ نے خلافت کو اپنے والد کی وصیت کے مطابق حضرت امیر معاویہؓ کے سپرد کر دیا۔ تو اب کوفہ کی بجائے دمشق دارالحکومت قرار پایا گیا۔ اور انتخاب امیر کا حق اب کوفہ سے شام کو منتقل ہو گیا۔ چونکہ حضرت علیؑ کے دور خلافت میں باہمی لڑائیاں ہو چکی تھیں۔ اس لئے حضرت امیر معاویہؓ کے سامنے صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہؐ کے پاڈی گارڈ کا شرف حاصل کر نیوالے صحابی حضرت مغیرہ بن شعبہؓ نے جب ولی عہدی کی تجویز پیش کی تو انہوں نے اس پر عملدرآمد کرنے کی بجائے پورے عالم اسلام سے پورے پانچ سال تک اس پر آراء طلب کیں۔ اور جب امت کی اکثریت نے اس کی تائید کی تو پھر امیریزیدؓ کو ولی عہد نامزد فرمایا۔

وفي سنة تسع وخمسين وفد على معاوية وفد  
الامصار من العراق وغيرها. فكان ممن  
وفد من اهل العراق الاحنف بن قيس في  
آخرين من وجوه الناس (مروج الذهب، ج. ۳، ص ۳۷۴)



ترجمہ ۱۔ اور ۵۹ھ میں حضرت امیر معاویہؓ کے پاس  
عراق اور مختلف شہروں سے وفد آئے۔ اور جرہوک  
عراق سے آئے تھے۔ اس میں دوسرے سردار لوگوں  
کے علاوہ حضرت احنف بن قیس بھی تھے۔

یہاں پر مسعودی کو غلطی لگی ہے۔ کہ ۵۹ھ نہیں ہے  
بلکہ ۵۴ھ ہے۔ طبری وغیرہ نے بھی یہی لکھا ہے۔

وفیہا دعا معاویۃ الناس الی بیعة ابنہ یزید  
من بعدہ جعلہ ولی العهد۔ (طبری، ج ۶، ص ۱۶۸)  
ترجمہ ۱۔ اور اس ۵۴ھ میں حضرت امیر معاویہؓ نے  
لوگوں سے اپنے بیٹے یزید کے لئے خلافت کی بیعت  
لی اور انہیں ولی عہد بنایا۔

وشرح معاویۃ فی نظم ذالک والدعا الیہ  
وعقد البیعة لولدہ یزید وکتب الی الآفاق  
بذلک فبايع له الناس فی سائر الاقالیم۔  
والبدایہ والنہایہ، ج ۸، ص ۶۹)

ترجمہ ۱۔ اور حضرت معاویہؓ نے ولی عہد کی بیعت  
کے لئے اور لوگوں کو اس کی طرف دعوت دینے کے  
لئے اقتدافات شروع کئے۔ اور اپنے بیٹے یزید کے لئے  
بیعت (ولی عہد کی) لی۔ اور مختلف علاقوں صوبہ جات  
کی طرف اس بارے میں لکھا۔ پس لوگوں نے تمام صوبوں  
میں بیعت ولی عہد کی۔

حضرت امیر معاویہؓ نے ولی عہد کی تکمیل کے بعد جو دعا کی تھی وہ اس بات کی مظہر ہے کہ ان کا یہ اقدام امت کی فلاح و بہبود کی لئے تھا۔ اور اس میں کسی قسم کی شفقت پر ہی شامل نہ تھی۔ بسایوں نے اور ان کے بہنو امور خوں نے جو بے سرو پا باتیں کہی ہیں۔ حضرت امیر معاویہؓ اور ان کے رفقاء حضرات صحابہ کرام اس قسم کی باتوں سے بالا و برتر تھے۔

اللهم ان كنت تعلم اني وليته لادنه فيما اراه اهل لذك فاتممه ما وليته وان كنت وليته لاني احبه فلا تممه ما وليته۔  
(البدایہ والنہایہ، ج، ۸، ص ۸)

ترجمہ:۔ اے اللہ تو جانتا ہے۔ اگر میں نے یزید کو اس لئے ولی عہد بتایا ہے۔ کہ وہ اس کا اہل ہے تو اس ولی عہد کی کام کو پورا فرما۔ اور اگر میں نے اس کی محبت کی وجہ سے ولی عہد مقرر کیا ہے تو اس ولی عہد کو پورا فرما۔

غرض حضرت امیر معاویہؓ نے امت کی فلاح کے لئے صحابہؓ کے مشورہ سے اور مزید پوری مملکت اسلامیہ سے مشاورت کے بعد امت کی اکثریت کو اس تجویز سے متفق پاتے ہوئے۔ امیر یزیدؓ کو ولی عہد نامزد کیا جو بالکل جائز اور درست تھا۔ اس مسئلہ پر عظیم الشان

اجماع امت ہوا۔ کیونکہ یہ معاملہ پہلی خلافتوں میں عمل میں آچکا تھا۔ کہ نامزدگی کا مسئلہ حضرت ابوبکر صدیق کے دور سے ہی اجماعی تھا۔ اور باپ کے بعد بیٹے کا خلافت پر آنا حضرت علیؑ کے بعد حضرت حسنؑ کے مسند خلافت پر آنے سے اجماعی مسئلہ بن چکا تھا۔ اور حضرت امیر معاویہؓ اس معاملہ میں مکمل طور پر باختیار تھے۔ کہ وہ امت کی فلاح کے لئے جسے چاہتے اپنی صوابدہ سے امیر نامزد فرما دیتے۔ کیونکہ جس ہستی کو اس کی زندگی میں امت کے معاملات کا امین تسلیم کیا گیا ہے۔ اگر وہ اپنی زندگی کے بعد کے لئے بھی کوئی فیصلہ کر جائے تو وہ اسی طرح واجب التعمیل ہے۔ جس طرح اس کی زندگی میں تھا۔

حضرت امیر معاویہؓ کا یہ کمال تدبیر تھا کہ انہوں نے اس معاملہ میں بھی احتیاط سے کام لیتے ہوئے مملکت اسلامیہ کے صوبہ جات سے رائے لی۔ اور پورے پانچ سال اس معاملہ کی تکمیل میں صرف ہوئے۔ مسئلہ ولی عہد کی راہدہ میں زیر غور آیا۔ اور ۵۷ھ میں اس کی تکمیل ہوئی۔ اور چند اشخاص کے بیعت ولی عہد کی نہ کرنے سے اس کی ایسی حیثیت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ جس طرح امت کا ایک بڑا حصہ حضرت علیؑ اور بعد ازاں حضرت حسنؑ کی بیعت نہیں کرتا ہے۔ اس کے

باوجود اہل سنت انہیں خلیفہ تسلیم کرتے ہیں۔ حالانکہ جن لوگوں نے حضرت علیؑ کی بیعت خلافت سے توقف کیا تھا۔ ان میں عشرہ مبشرہ میں سے صحابہؓ، امہات المؤمنینؓ اور دیگر اکابر صحابہؓ تھے۔ جو امیرینہ کی بیعت ولی عہدی نہ کرنے والوں سے اور بعد ازاں ان کی بیعت خلافت نہ کرنے والوں سے مقام و مرتبہ میں بدرجہا بلند تر تھے۔ جس طرح اکابر صحابہؓ کا اجتہاداً حضرت علیؑ کی بیعت خلافت سے توقف ان کی خلافت کی اپنی حیثیت کو متاثر نہیں کرتا۔ اسی طرح حضرت حسینؑ اور حضرت عبداللہؑ زبیرؑ کا امیرینہ کی بیعت خلافت نہ کرنا ان کی خلافت کی اپنی حیثیت کو متاثر نہیں کرتا۔

علاوہ ازیں بعض کتب میں حضرت علیؑ کی طرف سے اپنے آخری وقت میں ایسی وصیتیں بھی درج ہیں جن سے ان کی طرف سے حضرت حسنؑ کی نامزدگی کا ثبوت ملتا ہے۔ اگرچہ حضرت امیر معاویہؓ کے لئے اب تک کی گفتگو سے ہی ولی عہدی کا جواز موجود تھا۔ مگر حضرت علیؑ کی طرف سے حضرت حسنؑ کو خلیفہ الاموات کے الفاظ سے مخاطب کیا گیا۔ جو ایک طرح سے ولی عہدی کے لئے نامزدگی ہے۔

ملاحظہ ہو۔

ومن وصية له عليه السلام من الوالد  
الغان - التفر للزمان المدبر العمر  
المستسلم للدهر - الذام للدينيا - الساكن  
مساكن الموتى الظاعن عنها غدا - الى المولود  
المومل ما لا يدرك السالك سبيل من قد  
هلك - غرض الاسقام و رهينة الايام و  
رميته المصائب و عيب الدنيا و تاجر الغرور  
و غريم المنايا - و اسير الموت و حليف الهموم  
و قهرين الاحزان - و نصب الافات و سرير  
الشهوات و خليفة الاموات -

ترجمہ - یہ وصیت نامہ اس باپ کی طرف سے ہے  
جو فنا کے قریب اور (سختی پائے) زمانہ کا معترف  
ہے - جو زندگی کو پشت رکھانے والا ہے - جو حوائث  
روزگار کے سامنے پیر انداز ہے - دنیا کی مذمت  
کرنے والا ہے - اور شہر خموشاں میں جا بسنے والا  
ہے - اس کا نقارہ کوچ بچنے والا ہے -

(یہ وصیت) اس بچے کے لئے ہے - جو نہ حاصل  
ہونے والی آرزو کا خواہاں ہے - اور ہلاک شدگان  
کے راستے پر چلنے والا ہے - بیماریوں کا ہدف -  
رہین ستم پائے روزگار - مصائب کی آماجگاہ بندہ  
دنیا اور فریب کا سوداگر - گرفتار آرزو ہا - امیر موت

تفکرات کا سابقہ - حزن و ملال سے متصل ہے۔ آفتوں  
کا نشانہ - خواہشات کا پچھاڑا ہوا - اور مرنے والوں  
کا جانشین ہے - ترجمہ و شرح پنج البلاغہ - ص ۹۰۶، ۹۰۷

ملا باقر مجلسی گو اہ ہے  
مشہور تصنیف جلاء

العیون میں رقم طراز ہیں -

ہنگام وفات امیر المؤمنین شد - امام حسن را با سایر  
فرزندان و شیعیان خود طلبید و امام حسن را وصی و خلیفہ  
خود گردانید۔

ترجمہ ۱ - امیر المؤمنین (علیؑ) نے اپنی موت کے وقت  
امام حسن کو اپنے تمام فرزندوں اور اپنے شیعوں سمیت  
طلب کیا - اور امام حسن کو اپنا وصی اور خلیفہ مقرر کیا -  
(جلاء العیون، ص ۲۲۲ - مطبوعہ تہران)

مزید ملاحظہ ہو -

پس حضرت بر منبر نشست و عبد اللہ بن عباس  
بر خاست گفت ای گروہ مرد ما این فرزند پیغمبر  
شما است و وصی امام شما است با او بیعت کنید پس  
مردم اجابت او کردند۔

ترجمہ ۱ - پس حضرت (حسنؑ) منبر پر بیٹھے اور عبد اللہ  
بن عباس اٹھے - فرمایا اے بہادرروں کی جماعت  
یہ تمہارے پیغمبر کے فرزند ہیں - اور تمہارے امام

کے وصی ہیں۔ ان سے بیعت کرو۔ پس لوگوں نے اسے قبول کیا۔ (بیعت کر لی۔) (جلاء العیون، ص ۲۵) (مطبوعہ تہران)

اب تک پیش کئے جانے والے دلائل سے یہ بات بخوبی واضح ہو چکی ہے کہ مسئلہ ولی عہد کی امت مسلمہ میں ایک متفق علیہ مسئلہ ہے۔ اس سلسلہ میں حضرت امیر معاویہ کا طرز عمل اپنے پیشرو و خلفاء سے مختلف نہ تھا۔ انہوں نے نامزدگی میں ابو بکرؓ و عمرؓ کے طرز عمل کو پیش نظر رکھا۔ تو باپ کے بعد بیٹے کی نامزدگی میں حضرت علیؓ کے طرز عمل کو مد نظر رکھا۔ اگر باپ کے بعد بیٹے کا خلافت پر آنا محمود عمل ہے اور جائز ہے۔ تو امیر معاویہ نے کوئی جرم نہیں کیا ہے۔ امت کی فلاح کے لئے جو قدم اٹھایا ہے وہ درست ہے۔ اور اگر باپ کے بعد بیٹے کا خلافت پر آنا مکروہ ہے اور اس سے خلافت بادشاہت میں بدل جاتی ہے تو یہ "جرم" حضرت علیؓ سے مراد ہو چکا ہے۔ پھر خلافت کو ملکیت میں بدلنے کی ذمہ داری ان پر ڈالی جائے۔ فیصلہ قارئین پر ہے جو چاہیں فیصلہ کریں۔

جب امیر مزید کی خلافت کا ولی عہد کا معاملہ زیر بحث

ایک غلط فہمی

آتا ہے تو کچھ لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ مسئلہ ولی عہد کی حامی اور امیر نزیہ کو خلیفہ و امام تسلیم کرنے والے حضرت حسینؑ کے مقابلہ میں امیر نزیہ کو افضل تصور کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ ایک طے شدہ بات ہے کہ حسینؑ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کا شرف حاصل ہے۔ اور اس وجہ سے آپ ان تمام اعزازات کے حامل ہیں جو حضورؐ کو دیکھنے سے کسی بھی شخص کو حاصل ہوتے ہیں۔

جہاں تک امیر نزیہ کا تعلق ہے۔ ان کی پیدائش ۲۰ سالہ میں دور خلافت فاروقی میں ہوئی ہے۔ اسی طرح وہ تابعین کے زمرے میں آتے ہیں۔ اور تابعی کا درجہ بہر حال صحابی سے کم ہوتا ہے۔ اور یہ بات خود حضورؐ کے طرز عمل سے ثابت ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں تقویٰ و پرہیزگاری سے قطع نظر افضل کو نظر انداز کر کے کم تر درجہ۔ اور سابقوں الاولوں کو چھوڑ کر نئے اسلام میں داخل ہونے والے بزرگوں کو ان کی انتظامی اور قائدانہ صلاحیتوں کی بنا پر گورنر و والی بنایا۔ حضرت امیر معاویہؓ نے صحابہؓ کے مشورے اور عظیم الشان استصواب رائے سے ملکی مصالحہ کو مد نظر رکھتے ہوئے امیر نزیہ کو جو مقام و مرتبہ میں حضرت حسینؑ کے بوجہ صحابی ہونے کے کم تر تھے۔



ولی عہد نامہ دیا گیا تھا۔ تو ان کا یہ اقدام عین اسلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کے مطابق تھا۔ اس وقت اس بات کا خطرہ موجود تھا کہ حضرت امیر معاویہؓ کے انتقال کے بعد وہ عناصر جہنوں نے اس سے قبل جنگ جمل اور صفین بھڑکا کر مسلمانوں کے خون کو ارزاں کیا تھا۔ پھر سرگرم عمل ہو کر مسلمانوں کو کسی نئی خانہ جنگی میں نہ مبتلا کر دیں۔ یہ بات اب تاریخ کے صفحات پر اچھی ہے۔ کہ حضرت حسنؓ نے جب امیر معاویہؓ سے صلح کر کے امر خلافت ان کے سپرد کر دیا۔ تو اس وقت کوئی حضرت حسینؓ کے پاس آئے اور انہیں اپنی حمایت و امداد کی یقین دہانی کرائی مگر آپ نے ان کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے خلافت کے لئے نکلنے سے ان الفاظ میں انکار کیا تھا۔

اب صلح ہو گئی ہے۔ اور بیعت کر لی گئی ہے۔ اس لئے ہمیں اس وقت تک انتظار کرنا چاہیئے۔ جب تک یہ شخص موجود ہے۔ (امیر المؤمنین امیر معاویہؓ) جب یہ مرحلے گائے گا تو ہم بھی دیکھیں گے۔ تم بھی دیکھنا۔

(مقتل ابی مخنف اردو، ص ۴۴)

حضرت حسنؓ کی وفات پر تعزیتی خط میں بھی کوفیوں نے حضرت حسینؓ کو لکھا تھا۔ ہم آپ کے حکم کے منتظر ہیں۔

ہم آپ کے شیعہ آپ کی اس مصیبت میں برابر  
 کے غم خواہیں۔ آپ کے رنج سے ہم رنجور ہوتے  
 ہیں۔ اور آپ کی مسرت پر مسرور۔ ہم آپ کے حکم  
 کے منتظر ہیں۔ خدا تعالیٰ آپ کا سینہ کھول دے۔  
 آپ کی شان بلند کرے۔ آپ کی قدر بڑھائے۔  
 وراپ کو آپ کا حق واپس دلائے۔  
 (مقتل ابی مخنف اردو، ص ۲۹)

علاوہ ازیں حضرت میغرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ جو  
 حصہ دراز سے کوفہ کے گورنر چلے آ رہے تھے۔ ان  
 لوگوں کی بد نظرت سے آگاہ تھے۔ اس لئے انہوں  
 نے ہی اولاً حضرت امیر معاویہؓ کو ولی عہدی کا مشورہ  
 دیا تھا۔ جس پر حضرت امیر معاویہؓ نے عظیم الشان  
 رائے شماری کے بعد عمل کیا۔ تاکہ یہ معاملہ امت کا  
 اجتماعی اور متفقہ فیصلہ بن جائے۔

آگے چلنے سے پیشتر مناسب ہے کہ افضل کو چھوڑ  
 کر کتر کو عہدہ و ولایت پر مامور کرنے کی سنت نبوی  
 کی نظیر درج کر دی جائے۔

ابو بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یزید رضی  
 اللہ عنہ بن ابوسفیان رضی اللہ عنہ کو تہاء کا والی بنایا۔  
 جبکہ آپ فتح مکہ کے بعد اسلام لائے تھے۔ اور مقام  
 و مرتبہ کے اعتبار سے آپ سے زیادہ بزرگ موجود

تھے۔ (تاریخ اسلام، ص ۹۸، شاہ معین الدین ندوی)  
 لکے۔ صخر بن حوب بن امیہ بن عبد شمس  
 بن عبد مناف الاموی ابو سفیان والذمعاویۃ  
 واخوانہ..... و ذکر ابن اسحاق ان  
 النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلہ الی مٹاة  
 یقتد ید فهد مها وقال العسکری ولادہ نجران  
 و صدقات الطائف۔ (تہذیب التہذیب، ج ۴، ص ۴۱۲)  
 ترجمہ: صخر بن حوب بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف  
 اموی ابو سفیان معاویہ اور ان کے بھائیوں کے  
 والد..... ابن اسحاق نے ذکر کیا۔ کہ نبی  
 صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سفیانؓ کو کلہاڑا لے  
 کر منات بیت کی طرف بھیجا۔ پس ابو سفیانؓ نے اسے  
 معہدم کر دیا۔ اور عسکری نے بیان کیا۔ کہ حضور نے  
 اسے (ابو سفیانؓ کو) علاقہ نجران اور طائف کے صدقات  
 پر والی مقرر فرمایا۔

اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت  
 امیر معاویہؓ کو کاتب وحی، حضرت ابان بن سید اموی  
 کو والی بحرین مقرر فرمایا۔  
 العزیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مختلف  
 علاقوں کے والی مقرر کرتے وقت قدیم الاسلام یا  
 نقوی و پرہیزگاری کے لحاظ سے اعلیٰ مرتبہ پر فائز

ہونے کے باوجود نئے مسلمان ہونے والے اور کم  
 مرتبہ والے لوگوں کو ان کی قیادت اور صلاحیتوں کی بنا  
 پر آگے بڑھایا۔ اور ان میں بھی اسی فیصد افراد خاندان  
 بنی امیہ سے تعلق رکھتے تھے۔ کیونکہ قریش قبیلہ میں  
 اموی خاندان عرصہ سے قیادت و سرداری کا فریضہ  
 سرانجام دیتا چلا آ رہا تھا۔ اور یہ لوگ طرز جہانگیری  
 و جہانبانی سے عملی طوحت پر آگاہ و تربیت یافتہ تھے۔  
 چنانچہ حضرت امیر معاویہ نے اپنے آخری دور میں  
 اہل کوفہ کی تخریب و سازش پسند نظرت سے  
 واقف ہوتے ہوئے صحابہؓ کے مشورے سے ایک  
 عظیم الشان رائے شماری کے بعد امیریزید کو ولی  
 عہد نامزد کر کے ان کے لئے بیعت لے لی۔ تاکہ فتنہ  
 پرور لوگوں کو ملت اسلامیہ میں انتشار و افساق  
 پھیلانے کا موقع نہ مل سکے۔ اگر حضرت حسینؑ خوش  
 فہمی میں مبتلا ہو کر اہل کوفہ کے جھوٹے وعدوں پر  
 اعتماد نہ کرتے اور صحابہؓ کے مشوروں کے مطابق کوفہ  
 نہ جاتے تو ملت اسلامیہ اس حزن انگیز سانحے سے  
 دوچار نہ ہوتی۔ جس نے بعد میں سیاسی اختلاف  
 سے نچل کر مذہبی اختلاف کی صورت اختیار کی۔  
 اور جب سے لے کر اب تک کئی کروڑ افراد  
 اس مذہبی اختلاف کی بھینٹ چڑھ چکے ہیں۔

علاوہ ازیں اسی غیر منصفانہ اور متعصبانہ  
 جانبداری نے ہماری ملی  
 متانت کو بھی گروا کر دیا۔  
 رکھ دیا۔



## باب دوم

### کردار امیر المومنین زیدؑ

بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ امیر معاویہؓ نے امیر زیدؑ کو نافرمان کرنے میں خطا کی ہے۔ کیونکہ امیر زیدؑ کا ذاتی کردار درست نہ تھا مگر یہ بھی ان کی بے خبری سے ہے۔ اور اس غلط پروپیگنڈے کا اثر ہے۔ جو کہ جھوٹے قصہ گو قسم کے راویوں نے پھیلا دیا ہے حالانکہ اصل صورت حال یہ ہے کہ امیر المومنین زیدؑ مجاہد و غازی ہیں۔ امیر الحجاج بن کر نہ صرف خود سچ کرتے رہے بلکہ ان کی ماتحتی میں لاکھوں صحابہؓ و تابعینؓ نے سچ کئے۔ نماز کے پابند۔ نیکی کے کاموں میں جلد بازی کرنے والے۔ سنت رسول کو لازم پکڑنے والے۔ اپنے خاندان کے صالح ترین فرد تھے۔ وہ صحابہؓ و تابعینؓ کے امام الصلوٰۃ تھے۔ حدیث کے راوی۔ حضرت ابوالفضلؓ رضی اللہ عنہ کے وصی تھے۔ شجاعت و بہادری۔ فصاحت و شعر گوئی۔ خوب صورت و خوب سیرت۔ حلیم و کریم۔ نرم طبیعت اور شفقت

و مہربانی جیسی اچھی صفات کے مالک تھے۔ مذکورہ بالا اوصاف کے سلسلہ میں ذیل میں تفصیل سے شہادتیں درج کی جا رہی ہیں۔

امیر المجاہدین ان یزید بن معاویہ کان

امیر اعلیٰ الجیش الذی عزانیہ

ابو ایوب قد دخل علیہ عند الموت فقال له اذا  
انامت فاقرا و علی الناس منی السلام و اخبروهم  
اننی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول  
من مات لا یشرک باللہ شیئا جعلہ اللہ فی الجنۃ  
و یشطلقوا فیعبدونی فی ارض الروم ما استطاعوا۔  
(البدایہ والنہایہ، ج ۵، ص ۵۸، ۵۹)

ترجمہ: بے شک یزید بن معاویہؓ اس لشکر کے سردار تھے۔ جس میں میزبان رسولؐ حضرت ابو یوبؓ انھاری نے حصہ لیا تھا۔ امیر یزیدؓ ان کی موت کے وقت ان کے پاس گئے۔ حضرت ابو یوبؓ نے فرمایا جب میری موت واقع ہو جائے تو لوگوں کو میری طرف سے سلام کہنا۔ اور ان کو یہ خبر دینا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو آدمی اس حال میں فوت ہوا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دیں گے۔ اور مجھے رومیوں کی سرزمین

میں جہاں تک ہو سکے دور تک لے جا کر دفن کرنا۔  
 وفيها كانت غزوة يزيد بن معاوية الروم  
 حتى بلغ قسطنطينه ومعه ابن عباس وابن عمر  
 ابن الزبير وابو ايوب الانصاري -  
 (طبری، ج ۴، ص ۱۳۱)

ترجمہ: اور اس سال (۶۰۹ھ) میں یزید بن معاویہ  
 نے رومی علاقوں پر حملہ کیا۔ یہاں تک کہ قسطنطنیہ  
 تک پہنچ گیا۔ اس جہادی مہم میں اس کے ساتھ عبداللہ  
 بن عمرؓ، عبداللہ بن عباسؓ، عبداللہ بن زبیرؓ اور  
 ابو ایوبؓ انصاری بھی شامل تھے۔

ان ابا ايوب قال ليزيد بن معاوية حين  
 دخل عليه اقرى الناس منى السلام ولينطلقوا  
 لي فليعبد واما استطاعوا قال فحدث يزيد  
 الناس بما قال ابو ايوب فاستسلم الناس  
 فانطلقوا بجنائزته ما استطاعوا۔

ترجمہ: حضرت ابو ایوبؓ انصاری رضی اللہ عنہ  
 نے یزید بن معاویہ سے کہا۔ جب وہ انہیں (مرض  
 الموت میں) ملنے آیا۔ میری طرف سے لوگوں کو  
 سلام کہنا۔ اور جنازہ کو دشمن کی سرزمین میں جس  
 قدر ہو سکے دور تک لے جانا۔ پس یزید نے یہ  
 بات لوگوں سے بیان کی۔ لوگوں نے اس کو تسلیم



کرتے ہوئے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ  
عنه کے جنازہ کو جتنا دور تک لے جا سکے تھے  
لے کر گئے۔ (قسطنطنیہ شہر کی فصل کے پاس)  
دفن کیا۔ (طبقات ابن سعد، ج ۳، ص ۸۵، ۸۶)  
اس تاریخی جہاد میں اس وقت کی معروف و ممتاز  
شخصیات مثلاً حضرت ابو ایوب انصاری میزبان  
رسولؐ۔ عبداللہ بن عمرؓ۔ عبداللہ بن عباسؓ۔ عبداللہ بن  
زبیرؓ اور خود حضرت حنینؓ بھی امیرزید کی زیر قیادت  
شریک تھیں۔

## طبری رقمطراز ہے

مشہور شیعہ مورخ ابن  
جریر طبری اپنی مشہور

کتاب تاریخ الامم والملک المعروف تاریخ طبری میں  
۳۹ھ کے مشہور واقعات درج کرتے ہوئے لکھتے  
ہیں۔

وفیہا كانت غزوة يزيد بن معاوية الروم  
حتى بلغ قسطنطينيه ومعه ابن عباس وابن  
عمر وابن الزبير وابو ايوب الانصاري۔  
ترجمہ:- اس سال ۳۹ھ میں یزید بن معاویہ نے  
رومی علاقوں پر جہاد کیا۔ یہاں تک کہ وہ قسطنطنیہ  
تک پہنچ گئے۔ اس جہاد میں ہمیں اس کے ساتھ  
عبداللہ بن عباسؓ، عبداللہ بن عمرؓ، عبداللہ بن زبیرؓ

اور حضرت ابوالیوث انصاری بھی تھے۔

کان اول من غزاهم مدینة قیسریة بن معاویہ و معہ جماعة من سادات الصحابة کان بن عباس بن عباس و ابن الزبیر و ابی ایوب الانصاری ترجمہ: مدینہ قیسر (قسطنطنیہ) پر سب سے پہلے جہاد کرنے والا شخص یزید بن معاویہ تھا۔ اور ان کے ساتھ بزرگ صحابہ مثلاً عبداللہ بن عمر عبداللہ بن عباس عبداللہ بن زبیر اور حضرت ابوالیوث انصاری سمیت صحابہ کی ایک جماعت بھی تھی۔

دارشمار الساری شرح بخاری شریف، باب ما قبل فی قتال روم

حسین لشکر یزید میں جہاد قسطنطنیہ میں

علاوہ خود حضرت حسین بھی شامل ہیں۔ اور جنگی خدمات سرانجام دیتے ہیں۔ اور ان سب کا برکات کا امیر یزید کی ماتحتی میں کام کرنا اس بات کا واضح ثبوت ہے۔ کہ ان کے کردار میں کسی قسم کا کوئی نقص نہ تھا۔ یہ سب بعد کی پیداوار ہیں۔

ولما توفی الحسن کان الحسین یعد الی معاویة فی کل عام فیعطیہ و یکرّمہ۔ وقد کان فی الجاہلیة الذی غزوا القسطنطنیہ مع ابن معاویة یزید۔

ترجمہ - اور جب حضرت حسنؑ وفات پا گئے۔ تو حضرت حسینؑ ہر سال امیر المومنین امیر معاویہؓ کے پاس جاتے پس وہ ان کی عزت کرتے۔ اور عیٹے دیتے۔ اور حضرت حسینؑ اس لشکر میں شامل تھے۔ جس نے امیر یزیدؑ کی معیت میں قسطنطنیہ پر حملہ کیا تھا۔

(البدایہ والنہایہ، ج ۱ ص ۱۵۱)

شہید موحح حسین امیر علیؑ کے ہیں جس امیر علی اپنی

مشہور تاریخ "ہسٹری آف سیرینز" میں رقمطراز ہیں۔

HE (HUSSAIN) HAD SERVED WITH HONOUR  
AGAINST THE CHRISTIANS IN THE SEIGE  
OF CONSTANTINOPLE

ترجمہ - انہوں (حسینؑ) نے عیسائیوں کے خلاف قسطنطنیہ کے محاصرہ میں قابل قدر خدمات سرانجام دیں تھیں۔  
(ہسٹری آف دی سیرینز، ص ۸۲)

تاریخ مسلمانان عالم مولانا قاری احمد پیلو  
بھیتی اپنی مایہ ناز

تصنیف تاریخ مسلمانان عالم میں رقمطراز ہیں۔

"یہ امر قابل ذکر ہے کہ یزیدؑ کی سرکردگی میں جو فوج ۶۲ھ میں قسطنطنیہ کے لئے روانہ ہوئی۔ اس میں چند ایسی ہستیاں شامل تھیں۔ جن کی موجودگی میں حضرت امیر

معاویہؓ اور یزیدؓ کے خلوص اور اسلام سے سچی محبت پر  
 بخوبی روشنی پڑتی ہے۔ جیسے حضرت امام حسینؓ، حضرت  
 عبداللہ بن عباسؓ، حضرت عبداللہ بن عمرؓ اور چندوں کے  
 نامور صحابی اور بزرگ۔“

تاریخ مسلمانان عالم، ج ۴، ص ۴۴،

یہ جہاد ہی مہم ۱۴۱۰ھ میں روانہ ہوئی اور چھ ماہ  
 تک جاری رہی۔ تاریخ مسلمانان عالم کے فاضل مصنف  
 کو سن درج کرنے میں غلطی لگی ہے۔ یا ممکن ہے کہ  
 کاتب کی غلطی سے ۱۴۱۰ھ درج ہو گیا ہے۔ یہ جہاد ہی  
 مہم چھ ماہ بعد ختم ہوئی۔ اگرچہ قسطنطنیہ فتح نہ ہو سکا  
 جس میں اس کا مخصوص محل وقوع اور ناموافق موسمی  
 حالات کا بھی اثر تھا۔ تاہم نتائج کے اعتبار سے بالکل  
 کامیاب رہی۔ اور اس کے بعد پھر رومیوں کو اسلامی  
 مقبوضات کی طرف بڑھنے کی جرأت نہ ہوئی۔  
 یہ جہاد ہی مہم بھی خاص اہمیت کی حامل تھی۔ ویسے  
 جہاد فی سبیل اللہ کی قرآن و حدیث میں بہت فضیلت  
 آئی ہے۔ اور اس میں شامل ہونے والے مسلمانوں  
 کے لیے مغفرت و بخشش اور بلندی درجات کا  
 میثاقِ خداوندی ہے۔ ملاحظہ ہو۔

یا ایہا الذین امنوا  
 هل ادکم علی تجارۃ

فضیلت جہاد

تنجیکم من عذاب الیمہ تو منون باللہ و  
رسولہ و تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم  
وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون  
یعضدکم من ذنوبکم ویدخلکم جنت تجری  
من تحتہا الانهار و مسکن طیبہ فی جنت عدن  
ذالک الفوز العظیمہ

ترجمہ: اسے ایمان والو! کیا تمہیں میں ایک ایسی  
تجارت نہ بتاؤں۔ جو تمہیں دردناک عذاب سے  
نجات دلا دے۔ تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول  
پر ایمان رکھتے ہو۔ اور اللہ کی راہ میں اپنی جانوں  
اور اموال سے جہاد کرتے ہو۔ یہ تمہارے لئے بہتر  
ہے۔ اگر تم کو اس کا علم ہو۔ (اس کے بدلے میں)  
اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دیں گے۔ اور تمہیں  
ایسی جنت میں داخل کریں گے۔ جس میں نہریں چلتی  
ہیں۔ پاکیزہ مکانات اور ہمیشہ رہنے والے باغوں  
میں رہو گے۔ اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔  
ریت، رکوع، ۲، سورہ صف

آیت بالا میں جہاد بہترین تجارت ہے۔ اور اس  
کا نفع نجات اخروی اور جنت الفردوس میں ہمیشہ  
رہنے کی صورت میں ملے گا۔ اور یہ بشارت و وعدہ  
ہر مسلمان کے لئے ہے۔ خواہ وہ آج کے دور کا ہے۔

یا زمانہ ماضی سے تعلق رکھتا ہے۔

فصل اللہ المجہدین

باموالہم و انفسہم علی

## فضیلت مجاہد

القعدين درجة طوكلا وعد الله الحسنی ط

وفصل اللہ المجہدین علی القعدین اجرًا عظیمًا

درجت منه ومغفرة ورحمة ط وكان اللہ غفورًا رحیمًا

ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے پیٹھ رہنے والوں پر اپنی جان

و مال سے جہاد کرنے والوں کو درجہ میں فضیلت بخشی

ہے۔ اگرچہ اللہ نے سب سے اچھا وعدہ کیا ہے۔ مگر

جہاد کرنے والے مجاہدوں کو پیٹھ رہنے والوں پر

درجہ و فضیلت حاصل ہے۔ اور انہیں اجر عظیم ملے

گا۔ (انہیں) اللہ کی طرف سے بلند کی درجات بخشش

و رحمت ملے گی۔ اور اللہ تعالیٰ مغفرت و بخشش

کرنے والے رحیم ہیں۔

دیکھ، رکوع ۱۳، سورت نساء

ومن یقاتل فی سبیل اللہ

فیقتل او یغلب فسوف

## دوسرے مقام پر

نؤتیہ اجرًا عظیمًا

(دیکھ، رکوع ۱۰، سورت نساء)

ترجمہ: "اور جو شخص اللہ کے راستے میں لڑے۔

(جہاد کرے) پس وہ قتل ہو جائے (شہید ہو جائے)

یا غالب آئے (غازی بنے) اسے اللہ تعالیٰ بہت  
بڑا اجر دیں گے۔

آیات بالا سے واضح ہے کہ مجاہدان لوگوں سے  
درجہ و شان میں افضل ہے جو جہاد میں شامل نہیں  
ہیں اور یہ مجاہد خواہ شہید ہو یا غازی بنے۔ دونوں  
صورتوں میں اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر عظیم  
اور مغفرت و بخشش کی بشارت و وعدہ دیا گیا  
ہے۔

## احادیث رسول کی روشنی میں رسول اکرم

فرامین میں بکثرت جہاد و مجاہدین کی فضیلت و رفعت  
شان کا تذکرہ بیان فرمایا ہے۔ اور یہ فضائل اپنے  
عموم کے لحاظ سے ہر مجاہد کے لئے ہیں۔ ملاحظہ ہو۔  
عن ابی سعید الخدری قال قال یا رسول اللہ صلی  
اللہ علیہ وسلم ای الناس افضل فقال رسول اللہ  
صلی اللہ علیہ وسلم مومن یجاہد فی سبیل اللہ  
بنفسہ و مالہ۔ الی آخر۔

ترجمہ: "حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں۔ کہ رسول  
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا۔ کہ سب لوگوں میں  
افضل کون ہے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے  
فرمایا۔ وہ مومن جو اللہ کی راہ میں اپنی مال و جان

سے جہاد کرے۔“

بخاری شریف، ۱، باب الجہاد۔  
عن انس بن مالک عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم  
قال لغدوة فی سبیل اللہ اودوحة خیر من الدینا  
وما فیہا۔ (المحدث)

ترجمہ: ”حضرت انسؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  
سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا۔ خدا کی راہ  
میں (جہاد کے لئے) صبح یا شام چلنا۔ اس دنیا اور  
جو کچھ (نعیمتیں) اس میں ہیں۔ ان سے بہتر ہے۔“

بخاری شریف، ۱، باب الجہاد۔

عن ابی عبس وهو عبد الرحمن بن جبیر انک رسول  
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما اغبرت قدما عبد فی  
سبیل اللہ فتمسہ النار۔ (المحدث)

ترجمہ: ”حضرت ابو عبسؓ جن کا نام عبد الرحمن بن  
جبیر ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  
نے فرمایا۔ جس شخص کے دونوں قدم اللہ کی راہ میں  
گرد آلود ہوئے۔ اس کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔“

بخاری شریف، ۱، باب الجہاد۔

اوپر درج کی گئی چند ایک احادیث رسولؐ اور آیات  
قرآنی سے جہاد اور مجاہد کی تفصیلت خوب عیاں ہے  
اور ہر مسلمان مجاہد کی طرح امیر المؤمنین یزید رحمۃ اللہ علیہ



بھی ان سب بشارتوں اور مغفرتوں میں شامل ہیں۔  
 علاوہ ازیں یہ فضائل و مناقب جہاد و مجاہد عام ہیں۔ نبی  
 اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض جہادوں کے لئے  
 خصوصی بشارت و مغفرت کا اعلان فرمایا ہے۔ بدیں  
 وجہ ان جہادوں میں شریک ہونے والے افراد مذکورہ  
 بالا عمومی فضائل و بشارت کے ساتھ ان خصوصی انعامات  
 کے بھی سزاوار ہو کر مزید مقامات بلند کے حقدار ٹھہریں۔  
 اسی قسم کے جہادوں میں غزوہ بدر کے ساتھ ساتھ  
 جہاد نکر و منذ اور جہاد قسطنطنیہ بھی ہیں۔ چنانچہ جہاد  
 قسطنطنیہ کے متعلق خصوصی بشارت ملاحظہ ہو۔

## جہاد قسطنطنیہ سے متعلق بشارت

عن ام حرام انها سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول  
 اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا۔ قالت  
 ام حرام۔ قلت یا رسول اللہ انا فیہم۔ قال انت فیہم  
 ثم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اول جیش من امتی  
 یغزون مدینة قیصر مغفور لہم فقلت انا فیہم  
 یا رسول اللہ۔ قال لا۔

ترجمہ: ام حرام رضی اللہ عنہا روایت فرماتی ہیں کہ انہوں  
 نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے  
 میری امت کا پہلا لشکر جو بحری جہاد کرے گا۔ اس لشکر

کے لئے جنت واجب ہوگی۔ حضرت اہم حرام بیان کرتی ہیں کہ میں نے عرض کیا۔ اے اللہ کے رسول کیا میں ان میں شامل ہوں گی۔ تو آپ نے فرمایا۔ ہاں۔ تو ان میں شامل ہوگی۔ پھر آپ نے فرمایا۔ میری امت کا وہ پہلا لشکر جو قیصر روم کے شہر (قسطنطنیہ) پر حملہ کرے گا اس میں شامل سب جنتی ہیں۔ حضرت اہم حرام نے عرض کیا۔ اے اللہ کے رسول کیا میں ان میں سے ہوں۔ تو آپ نے فرمایا۔ نہیں۔

## علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں

شارح صحیح بخاری علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ حدیث مذکورہ بالا میں "مدینہ قیصر" کی کھفاحت کرتے ہوئے قسطنطنیہ سے مراد رومی سلطنت کا صدر مقام قسطنطنیہ ہے۔ پھر اس حدیث کے حاشیہ پر لکھتے ہیں۔ کان اول من غزا مدینة قیصر یزید بن معاویہ۔ وجماعة من سادات الصحابة کابن عمرو ابن عباس وابن الزبیر والابی ایوب النخاری۔

ترجمہ۔ مدینہ قیصر (قسطنطنیہ) پر سب سے پہلے یزید بن معاویہ نے حملہ کیا۔ اور ان کے ساتھ بزرگ صحابہ مثلاً عبداللہ بن عمرؓ۔ عبداللہ بن عباسؓ۔ عبداللہ بن زبیرؓ اور (میزبان رسول) حضرت ابویوب النخاری

رضوان اللہ علیہم اجمعین سمیت صحابہؓ کی ایک جماعت  
بھی تھی۔

در شرح بخاری، پ ۱، باب ما قبل فی قتال روم

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رقمطراز ہیں

و اول جيش غزاهما (ای قسطنطنیہ) کان امیرهم  
یزید والجيش عدد معين لا مطلق وشمول المغفرة  
لا حد لهذا الجيش اقوى ويقال ان يزيد انما غزا  
القسطنطينيه لاجل هذا الحديث۔

ترجمہ: اور پہلا اسلامی لشکر جس نے قسطنطنیہ پر جہاد  
کیا۔ اس کے سپہ سالار امیر یزید تھے۔ اور لفظ فوج  
ایک معین تعداد ہے۔ اور اس لشکر کے ہر فرد کا مغفرت  
و بشارت میں شامل ہونا قوی تر ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے  
کہ اسی بشارت کی خاطر امیر یزید نے قسطنطنیہ پر جہاد  
کیا۔ (منہاج السنہ، ج ۲، ص ۲۵۲)

بخاری شریف  
بھی امیر یزید

بخاری شریف گواہ ہے

کی اس جہادی مہم میں سپہ سالاری کی گواہی دیتی ہے۔  
اور اس کے ساتھ حضرت ابو ایوبؓ انصاریؓ میزبان  
رسولؐ بھی اس جہاد میں شامل ہیں۔ ملاحظہ ہے۔

اخبرنی محمود بن الربیع الانصاری.....

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فان الله قد حرم  
 الله على النار من قال لا اله الا الله - ينبغي يذالك  
 وجه الله قال محمود فحدثها قومنا فيهم ابو ايوب  
 صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة التي  
 قوت في فيها ويزيد بن معاوية عليهم بادض الرزم فالتوا  
 على ابو ايوب ..... الخ

ترجمہ: محمود بن ربيع انصاری بیان فرماتے ہیں -  
 ..... رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا  
 اللہ نے اس شخص کو جہنم پر حرام کر دیا ہے جس نے  
 لا الہ الا اللہ کہا۔ اور وہ اس سے رضائے الہی چاہتا  
 ہے۔ محمود بن ربيع انصاری نے کہا میں نے اس (حدیث)  
 کو ایک جماعت میں بیان کیا جس میں رسول اللہ کے صحابی  
 ابو ایوبؓ بھی تھے۔ اس جہاد میں بیان کیا جس میں انہوں  
 نے وفات پائی۔ اور اس وقت رومی علاقوں پر حبشی  
 مہم میں یزید بن معاویہ سپہ سالار تھا۔ پس ابو ایوبؓ  
 انصاری نے میری حدیث کا انکار کیا۔ ..... الخ  
 (بخاری شریف، ۱، کتاب التہجد، باب ۱۴۹،  
 صلوة النوافل جماعة۔)

تاریخ اسلام و المسلمین کی گواہی  
 قسطنطنیہ  
 پر سب  
 سے پہلا حملہ حضرت امیر معاویہؓ کے زمانے میں ہوا۔

حضرت معاویہؓ کے ہاں جزاؤں سے حضرت یزیدؓ کو اسلامی فوج کے سپہ سالار تھے۔ یہی وہ اسلامی فوج تھے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تخت نشین پاؤں شاہوں جیسی شان و شوکت کے ساتھ دکھائی گئی تھے۔ ان ہی کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ کہ وہ سب مغفرت یافتہ تھے۔ اسی جہاد میں حضرت ابو ایوبؓ انصاریؓ کی وفات ہوئی۔

تاریخ اسلام و المسلمین، ص ۱۸۷، از مسعود احمد بی۔ ایس۔ بی۔ اب تک کی گفتگو سے یہ بات واضح ہو کر سامنے آچکی ہے کہ بہترین تجارت خدا کی راہ میں جہاد ہے۔ جس کا نفع جنت میں دخول کی صورت میں ملے گا۔ اور مجاہد غازی بنے یا شہید۔ دونوں صورتوں میں اس کے لئے مغفرت کی بشارت ہے۔ علاوہ ازیں رسول اکرمؐ کی زبانی جہاد قسطنطنیہ میں شامل ہونے والوں کے لئے خصوصی مغفرت و بشارت کا وعدہ و پیشین گوئی بھی ہے۔ اور پیغمبر جیش امیر یزیدؓ رحمۃ اللہ علیہ کی سپہ سالاری میں مدینہ قیصر (قسطنطنیہ) پر جہاد کرتا ہے۔ اس معذور لشکر میں امیر یزیدؓ کی زیر قیادت میزبان رسولؐ حضرت ابو ایوبؓ انصاریؓ۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن زبیرؓ حضرت عبداللہ بن عمرؓ جیسے شیخ صحابہؓ کے ساتھ حضرت حسینؓ بن علیؓ بھی جہاد

خدمات سرانجام دیتے ہیں۔ ان کے علاوہ دیگر صحابہ اور ہزاروں تابعین بھی شامل ہیں۔ مگر اس امر کی شہادت بختیبر رسول کے کردار میں انہیں کوئی عیب نظر نہیں آتا ہے۔ بلکہ وہ سب لوگ خوشی خوشی بشارتِ مغفرت سے اپنے دامن کو بھرنے کے لئے اپنے محبوب امیر کی سرنگردگی میں جہادی خدمات سرانجام دیتے ہیں۔ ان کی امامت میں نمازیں ادا کرتے ہیں۔ اور دیگر دینی امور سرانجام دیتے ہیں۔

حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ رقمطراز ہیں۔

## امامت نماز

دکان فی جیش یزید بن معاویہ والیہ اوصی و ہوالذی صلی علیہ۔

ترجمہ۔ اور حضرت ابویوسف انصاری میزبان رسول بدری صحابی (وہ یزید بن معاویہ کے شکرِ قسطنطنیہ والے) میں شامل تھے۔ اور انہوں نے یزید کو ہی اپنے معاملات (از قسم تقسیم وراثت وغیرہ) میں اپنا وصی بنایا۔ اور امیر یزید نے ہی ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ (البدایہ والنہایہ، ج ۵ ص ۵۰۰)

یہ جہادی مہم ۶۴۰ھ میں روانہ ہوئی اور کم و بیش چھ ماہ بعد شہیدہ میں واپس ہوئی۔ اسی دوران حضرت ابویوسف انصاری کا انتقال ہوتا ہے۔ اور ان کی

نماز جازہ پھر نیزید کی امامت میں ادا کی جاتی ہے۔  
 اور ان کی نیز امامت دیگر صحابہ کرام کے ساتھ ساتھ  
 حضرت حسینؑ اور حضرت عبداللہؑ بن زبیرؓ بھی نماز  
 ادا کرتے ہیں۔ اور دیگر تابعین عظام بھی۔ جو اس بات  
 کا واضح ثبوت ہے۔ کہ ان کے کردار میں کسی قسم کا  
 کوئی شرعی عیب نہیں تھا۔ ترک نماز یا شراب نوشی  
 جیسے لغو اور بیہودہ التزامات جو آج ان پر لگائے جاتے  
 ہیں۔ ان میں ذبحہ بھر بھی صداقت ہوتی تو یہ اکابر اور  
 خود حضرت حسینؑ ضرور اس وقت اس مسئلہ پر انگشت  
 نمائی کرتے۔ اور اس طرح خاموشی سے ان کی سپہ سالاری  
 میں جہادی خدمات سرانجام نہ دیتے۔ اور نہ ہی ان  
 کی امامت میں نظریں ادا کرتے۔ اور یہ بات کوئی  
 صاحب عقل تسلیم کرنے کو تیار نہ ہوگا۔ کہ یہ سب  
 لوگ اس وقت خوفزدہ تھے یا مصلحت پسند تھے۔  
 وہ لوگ جو قیصر و کسریٰ کے تاج و تخت کو اپنے  
 پاؤں تلے روند چکے تھے ابھی زندہ تھے۔ ان کے  
 مقابلے میں حضرت حسینؑ ابھی بچے تھے۔ اگر امیر نیزیدؑ  
 کے کردار میں کسی قسم کا جھول ہوتا۔ تو وہ کبھی ظالموں  
 نہ رہتے۔ علاوہ انہیں کوئی صاحب ایمان یہ بات  
 تصور میں بھی لانے کو تیار نہیں ہو سکتا کہ حضرت  
 حسینؑ جو بعد میں اسی فرضی فسق و فجور کے خلاف سر

کٹانے نکلے تھے وہ اس وقت ہزاروں صحابہؓ و تابعین کی موجودگی میں محض جان کے خوف سے خاموش رہیں۔ اصل حقیقت یہی ہے کہ وہ نہ فاسق و فاجر تھے۔ اور نہ حضرات صحابہؓ کرام بشمول حضرت حسینؓ و ابن زبیرؓ بزدل و ڈرپوک اور نہ مصلحت پسند۔ بلکہ امیرین زید صالح نوجوان تھے۔ جن میں تقویٰ اور پریز گاری کے ساتھ قیادت کی صلاحیت بھی بدرجہ اتم موجود تھی۔

## یہاں حسینؓ کی شہادت

حضرت حسینؓ کے حقیقی بھائی

جناب محمد بن علیؓ المعروف بہ محمد بن حنفیہ کے پاس جب عبداللہ بن مطیع وغیرہ آئے۔ اور مدینہ طیبہ میں برپا کردہ شورش کے سلسلہ میں ان سے تعاون حاصل کرنے کی کوشش کی تو محمد بن علیؓ نے نہ صرف ان سے تعاون سے انکار کیا۔ بلکہ ان کی طرف سے یزیدؓ پر لگائے گئے الزامات کی اپنے چشم دید واقعات کی پرتو پرتو کر کے بیان کی۔ ملاحظہ ہو۔

ولما رجع اهل المدينة من عند يزيد مشى  
عبد الله مطيع واصحابه الى محمد بن الحنفية فالتوه  
على خلع يزيد فابى عليهم فقال ابن مطيع ان يزيد  
يشرب الخمر ويتروك الصلوة ويتعدى حكم الكتاب



فقال لهم: ما رأيت منه ما تذكرون - وقد حضرته  
واقمت عنده فرايتُهُ - واظبا على الصدقة - متحريرا  
للخير - يسأل عن الفتنه ملاذ بالسنة -

ترجمہ: جب اہل مدینہ نے امیر نیریز کی بیعت سے  
علی کی اختیار کی - تو عبداللہ بن مطیع اور اس کے ساتھی  
محمد بن علی المعروف محمد بن حنفیہ کے پاس آئے - اور  
انہیں امیر نیریز کی بیعت توڑنے کو کہا - تو محمد بن  
حنفیہ نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا - عبداللہ بن  
مطیع نے کہا یزیدؓ شراب پیتا ہے - نماز ترک کرتا  
ہے - اور قرآن کے احکامات کی خلاف ورزی کرتا  
ہے - تو محمد بن علیؓ برادر حسینؓ نے ابن مطیع اور ان  
کے ساتھیوں کو جواب دیا تم جن باتوں کا ذکر کر رہے  
ہو - وہ میں نے امیر نیریزؓ میں نہیں دیکھی ہیں - حالانکہ  
میں اس کے پاس گیا ہوں - اور کھڑا ہوں - پس میں  
نے اسے نماز کا پابند پایا - بھلائی کے کاموں میں  
جلدی کرنے والا پایا - (اپنے سے زیادہ عالم) لوگوں  
سے دینی مسائل دریافت کرنے والا پایا اور سنت  
رسولؐ کا شیدائی پایا -

والبدا یہ والنبایہ ، ج ۸ ، ص ۲۳۳ (۶)

یہ گواہی حضرت حسینؓ کی شہادت کے سانحہ سے  
تین سال بعد کی ہے - اور گواہ بھی ان کے اپنے گھر کے

فر وہیں۔ مگر واقعہ کربلا کے بعد عبداللہ بن زبیر کے  
 داعیوں نے سیاسی ضرورت کے تحت جو جھوٹے  
 الزامات لگانے شروع کئے تھے۔ حضرت محمد بن حنفیہ  
 نے اپنے چشم دید واقعات کی بنیاد پر ان کی واشگاف  
 تردید کی۔ اور ان کے جھوٹے پروپیگنڈے کا پول بھی کھول  
 دیا۔ کہ امیریزیدؑ تو پکے نمازی اور سنت رسولؐ کے  
 شیدائی ہیں۔

**امیر حج** حج اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ امیریزیدؑ  
 رحمۃ اللہ علیہ نے نہ صرف متعدد حج  
 کئے بلکہ امیرالحجاج کے فرائض بھی سرانجام دیتے رہے۔  
 ارشاد ربانی ہے۔

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ الْيَسْرَةَ  
 سبیلًا ۝۵۔

ترجمہ۔ اور اللہ کی طرف سے لوگوں پر حق ہے۔  
 کہ جو اس کے سفر حج کی استطاعت رکھتا ہے۔ وہ  
 حج بیت اللہ کرے۔

(پ، سورت آل عمران،

قرآن مجید اور احادیث رسولؐ میں حج اور حجج کی  
 بڑی فضیلت آئی ہے۔ بلکہ اگر کوئی شخص استطاعت  
 کے باوجود حج نہیں کرتا ہے۔ اور اسے کوئی شرعی عذر  
 بھی درپیش نہیں ہے۔ تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا

بئے حج کی سعادت سے بہرہ ور لوگوں کے لئے نبی  
صادق کی زبانی بشارتِ مغفرت۔ ملاحظہ ہو۔  
عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ  
وسلم من حج باللہ فلم یسرف ولم یفسق رجیع کیوم ولدتہ  
امتہ۔

ترجمہ:- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے  
ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا  
جس شخص نے خالص اللہ کے لئے حج کیا۔ اور دورانِ  
حج کوئی حد نہ توڑی۔ وہ حج کے بعد اس طرح گناہوں  
سے پاک واپس آیا۔ گویا اس کی ماں نے اسے آج  
ہی جنم دیا ہے۔

(بخاری، مسلم، مشکوٰۃ، ص ۲۲۷، کتاب المناسک، ج ۲، ۶۲)  
عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  
العمرۃ الی العمرة کفارة لما بینہما والحج المبرور  
لین لہ جناءٌ الا الجنة۔

ترجمہ:- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے  
ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک  
عمرہ کے بعد دوسرا عمرہ ادا کرنے سے درمیانی  
مدت کے تمام گناہ خطا یا معاف ہو جاتے ہیں۔  
اور حج مبرور جس میں کوئی شرعی خلاف درزی نہ ہو  
کی جزا صرف جنت ہی ہے۔

مشکوٰۃ ص ۲۷۷ کتاب المناسک حج، ۳، بخاری، مسلم  
**امیر حج** امیر حج کا منصب ایک خاص اہمیت  
 کا حامل ہے۔ یہ منصب صرف اس  
 اسی شخص کو سونا جاسکتا ہے۔ جو خود صالح اور پیر منیرگار  
 ہو۔ قرآن حدیث اور فقہ اسلامی میں مہارت رکھتا  
 ہو۔ تاکہ امیر حج جب خود حج کرے اور لوگوں کو کرائے  
 تو اس اہم دینی فریضہ کی انجام دہی میں کسی قسم کی کوتاہی  
 نہ واقع ہونے پائے۔

علاوہ ازیں امیر حج کا منصب اسی لئے بھی زیادہ اہمیت  
 کا حامل ہے۔ کہ حج کے موقع پر عالم اسلام کے دور  
 و راز کے مقامات اور قرب و جوار سے لوگ جمع  
 ہوتے ہیں۔ اس لئے ایسے شخص کو امیر حج بنایا جاتا تھا۔  
 جو ملکی امور میں بھی گہری سوجھ بوجھ رکھتا ہو۔ تاکہ وہ اپنے  
 خطبات میں لوگوں کو ہدایات و نصائح سے ترازے۔  
 لوگوں کی شکایات سن کر انہیں رفع کرنے کی کوشش  
 کرے۔ وقتی ضروریات کے مطابق لوگوں کو حکومت  
 کی پالیسیوں سے آگاہ کرے۔ اور ان کے مشوروں  
 سے اپنی حکومت کو مطلع کرے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ  
 وسلم کے زمانے میں فتح مکہ کے بعد ۹ھ میں امارت  
 حج سے فرما لیں آپ کے خلیفہ اول افضل البشر بعد النبی  
 امام المتین جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سزا بنا دی ہے۔

شدہ میں ساتی کو شرف شافع محشر خاتم النبیین والمعضومین  
 محمد رسول اللہ اہل اللہ علیہ وسلم نے خود امیر حج کے  
 فرائض سرانجام دیے۔ اس کے بعد اقلیم امامت کے  
 تاجدار اول۔ سید الصدیقین صہر رسول خلیفہ بلا فصل سیدنا  
 ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور پھر امام ثانی تاطق الوجہ شہید  
 محراب مسجد نبوی صہر رسول اور داماد علی رضی اللہ عنہ سیدنا  
 عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور امام ثالث داماد رسول کامل  
 الحیاء والایمان سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ تقریباً  
 ہر سال حج کے لئے تشریف لے جاتے رہے۔ اور امیر  
 حج کے فرائض سرانجام دیتے رہے۔ جب فتنہ پرورد  
 اور شریک سبائیوں نے امام مظلوم سیدنا عثمان ذی  
 النورین رضی اللہ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا۔ تو آپ نے  
 مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو امیر  
 حج بنا کر مکہ روانہ کیا۔ ابو تراب داماد رسول امام چہارم  
 سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں مدینہ  
 البقی کو چھوڑ کر کوفہ کو دار الحکومت بنالیا تھا۔ اس لئے  
 آپ اپنے دور خلافت میں نہ حج کے لئے جاسکے۔ اور  
 نہ ہی امارت حج کے فرائض سرانجام دے سکے۔

امارت حج اور امیر المؤمنین یزید رحمۃ اللہ علیہ  
 حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے خلافت سے دست بردار

ہونے کے بعد امامت و خلافت کا تاج کاتب وحی خال  
المومنین عصائے اسلام ہادی و مہدی سیدنا امیر المومنین  
امیر معاویہؓ کے سر پر سجا۔ تو آپؓ دو بار امیر حج بن کر  
زیارت بیت اللہ سے مشرف ہوئے۔ ملاحظہ ہو۔

حج معاویہ بالناس فی ایام خلافتہ موقین.....  
..... حج بالناس معاویہ سنة اربع و اربعین و  
سنة خمسین۔

ترجمہ:- حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے  
دور خلافت میں دو مرتبہ حج کیا اور لوگوں کو کرایا۔...  
..... حضرت امیر معاویہؓ نے ۴۴ھ اور ۴۵ھ  
میں لوگوں کو حج کرایا۔

(البدایہ والنہایہ، ج ۸، ص ۱۳۳، م)  
سیدنا امام معاویہؓ کے نائبین میں سے ان کے  
لائق و صالح فرزند امیر زیدؓ تین سال تک متواتر امیر  
حج بن کر آتے رہے۔ خود حج بیت اللہ مشرف ہوتے  
رہے۔ اور ان کی ماتحتی میں لاکھوں صحابہؓ و تابعین و بعض  
حج ادا کرتے رہے۔ ملاحظہ ہو۔

حج بالناس یزید ابن معاویہ فی سنة احد و خمسين  
و ثنتين و خمسين و ثلاث و خمسين۔

ترجمہ:- (امیر المومنین) یزید بن معاویہؓ نے ۵۱ھ  
۵۲ھ اور ۵۳ھ میں خود حج کیا۔ اور لوگوں کو کرایا۔

البدایہ والنہایہ، ج ۸، ص ۲۲۹

طبری لکھتا ہے تاریخ طبری میں من مشہور

مورخ طبری لکھتا ہے کہ

۱۵۰ھ میں امیر یزید رحمۃ اللہ علیہ امیر حج بن کر آئے۔  
ملاحظہ ہو۔

وحج بالناس فی ہذہ السنۃ یزید بن معاویہ۔

ترجمہ ۱۔ اور اس سال ۱۵۰ھ میں امیر یزید نے

لوگوں کو حج کرایا۔

(تاریخ طبری، ج ۴، ص ۱۶۱)

مذکورہ بالا حوالہ جات سے یہ بات کھل کر سامنے

آئی کہ امیر المومنین یزید رحمۃ اللہ علیہ تین سال تک امیر حج

بن کر آئے رہے۔ خود حج کیا اور ان کی امارت میں

لاکھوں تابعین و صحابہ کرام بھی حج کرتے رہے۔ اور

عقل سلیم یہ بات نہیں تسلیم کر سکتی کہ اگر امیر یزید کے

کردار میں فسق و فجور اور شراب نوشی جیسے غیر ب

ہوتے تو یہ دور خیر الترون کے بزرگ سمجھا خاموش

رہتے۔ ان سب حضرات کا امیر یزید کی زیر قیادت

فرار حج سرانجام دینا عاف ثابت کر رہا ہے کہ امیر یزید

ایک صالح و نیک طینت انسان تھے۔

اب تک پیش کی جانے والی عبارات و حوالہ جات

سے یہ ثابت ہو چکا ہے۔ کہ جہاد قسطنطنیہ ۱۵۰ھ میں ہوا

جس کے قائد امیر یزید تھے۔ اور حضرات ابو ایوب  
 الفارسیؓ، عبداللہ بن عمرؓ، حضرت عبداللہ بن زبیرؓ  
 اور حضرت حنین سمیت دیگر صحابہ و تابعین خوشی خوشی  
 نہ صرف جہادی کارنامے سرانجام دے رہے تھے۔  
 بلکہ ان کی امامت میں نمازیں بھی ادا کر رہے تھے۔  
 اور اللہ کی رضا و خوشنودی اور بشارت مغفرت لوٹنے  
 میں مصروف تھے۔ نہ آپس میں کوئی لشکر رنجی تھی۔ نہ  
 نفرت و عداوت۔ بلکہ محبت و الفت کا یہ روح پرور  
 منظر کتنا پیارا ہے۔ کہ بھتیجے رسولؐ امیر لشکر ہے اور  
 نواسہ رسولؐ مامور و ماتحت ہے۔

اس کے بعد ۱۵۵ھ تا ۱۵۶ھ تک امیر یزید امیر حج  
 کی حیثیت سے فریضہ حج ادا کرتے ہیں۔ اور صحابہؓ  
 و تابعینؓ حج کرتے ہیں۔ مگر ان سب کو ان میں کوئی  
 فسق و فجور نظر نہیں آتا ہے۔ وہ مظلوم یزیدؓ تک  
 نیک اور صالح ہے۔

عبداللہ بن عباسؓ کی شہادت کا تب و وحی  
 خال المومنین

سیدنا امیر معاویہؓ کا ۲۲ رجب ۴۰ھ کو انتقال پر ملال  
 ہوتا ہے۔ اور ان کے بعد پوری اسلامی ریاست میں  
 امیر المومنین یزیدؓ رحمۃ اللہ علیہ کی بیعت خلافت منعقد  
 ہوتی ہے۔ اسی موقع پر حضرت عبداللہ بن عباسؓ



کہ حضرت امیر معاویہؓ کی وفات کی اطلاع ملتی ہے۔  
تو آپ کا رد عمل ملاحظہ ہو۔

فقلنا یا ابا العباس جاء البوید جموت معاویة  
فوجہ طویلہ ثم قال اللهم اوسع لمعاویة اما والله  
ما كان مثل من قبل ولا یأتی بعدہ مثله فان ابنہ  
یتزید لمن صالحی اهلہ فالتموا مجالسکم واعطوا  
طاعتکم وبیعتکم قال فیینا نحن کذا الذی اذ جاء  
رسول خالد بن العاص وهو علی مکة یدعو للبیعة  
فمضی فبايع۔

ترجمہ۔ پھر ہم نے ان سے کہا۔ اے ابو العباس  
قاصد موت معاویہؓ کی خبر لایا ہے۔ (یہ سن کر) وہ  
دیر تک خاموش رہے۔ پھر دعائاً نثی کہ ابھی معطلیہ  
پر اپنی رحمت وسیع کیجیو۔ واللہ وہ ان لوگوں کی مثل  
تو نہ تھے جو ان سے پہلے گزر گئے۔ لیکن ان کے بعد  
کوئی ان کے مثل بھی آنے والا نہیں۔ اور ان کے فرزند  
یزید اپنے خاندان کے نیکو کاروں میں سے ہیں۔ تم  
لوگ اپنی اپنی جگہ بیٹھے رہنا۔ اور اطاعت کرنا۔ اور  
بیعت کرنا۔ (حضرت عامر نے) کہا کہ اسی طرح ہم  
ان کے (ابن عباس) پاس تھے کہ خالد بن العاص کا  
جو اس وقت مکہ کے عامل تھے۔ قاصد آیا۔ ان کو (ابن  
عباس) بیعت کے لئے بلایا۔ وہ گئے اور بیعت کی۔

الانساب والاشراف ص ۴، الجزء الرابع قسم ثانی -  
 مطبوعہ بیروشلیم، بحوالہ خلافت معاویہ و زیدہ ص ۹۰،  
 مذکورہ بالا گواہی حضرت عبداللہ بن عباس مفسر قرآن  
 کی ہے۔ جنہیں ساقی گوثر نے فہم قرآن کی دعویٰ تھی۔  
 درجہ رشتہ میں حضرت حسینؑ کے چچا تھے۔ اس گواہی  
 سے ۱۶ھ تک یعنی تحت خلافت پر ممکن ہونے کے  
 وقت تک امیر زیدؑ رحمۃ اللہ علیہ کا نیک و صالح ہونا  
 ثابت ہے۔

## حضرت حسینؑ کی شہادت

حضرت حسینؑ رضی اللہ عنہ  
 کے بارے میں جہاد قسطنطنیہ میں شامل ہونا اور امیر  
 زیدؑ کی امارت و امامت میں جہادی خدمات انجام  
 دینا اور تہاڑیں ادا کرنا پہلے گزر چکا ہے۔ اب کوفہ  
 کے قریب پہنچ کر جب کوفی شیعوں کی غداری اور  
 بے وفائی سامنے آئی تو حضرت حسینؑ نے مشہور عالم  
 تین شرائط پیش کیں جن میں سے ایک یہ بھی تھی کہ وہ  
 شام جا کر امیر زیدؑ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت  
 کر لیں گے۔ اس شرط کے پیش کرنے سے امیر زیدؑ  
 کے کردار کے بارے میں جو بیہودہ بکواسات سبائی  
 راویوں نے پھیلائی ہیں۔ وہ بلیا میٹ اور نیست  
 و نابود ہو جاتی ہیں۔ بلا حفظ ہو۔

وبعث عبيد الله بن زياد عمرو بن سعد لقتالهم  
فقال له الحسين يا عمر اختر مني احدى ثلاث خصال  
اما تتركني ارجع كما جئت - فان ابیت هذ ه فسينزوني  
الى يزيد فاضع يدي في يده فيحكمني ماداي - فان  
ابیت هذ ه فسينزوني الى التروك فاقتلهم حتى اموت -

ترجمہ :- اور عبید اللہ بن زیاد نے عمر بن سعد کو لڑائی  
کے لئے بھیجا۔ پس اسے حسین نے کہا۔ ان سے عمر میری  
طرف سے یہی شرائط میں سے ایک قبول کر لو۔ یا مجھے  
چھوڑ دو۔ میں جدھر سے آیا ہوں۔ واپس لوٹ جاتا  
ہوں۔ اگر تو اس کو نہ مانے تو مجھے یزید کے پاس  
جانے دو۔ میں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھ دوں  
گا۔ (بیعت کر لوں گا) اور وہ میرے بارے میں جو  
مناسب سمجھے گا فیصلہ کرے گا۔ اگر تو اس کا بھی انکار  
کرتا ہے۔ تو مجھے ترکوں کی (سرحد) طرف جانے دو  
میں ان سے جہاد کروں گا۔ یہاں تک کہ شہید ہو جاؤں  
(البدایہ والنہایہ، ج ۸، ص ۸۱)

وقدر دى انه عليه السلام قال لعمر بن سعد  
اختر وامننى اما الرجوع الى المكان الذى اقلت من  
وان اضع يدي على يد يزيد فهو ابن عمي لبيت  
فى رايه واما ان يسير وابتى الى ثغر من ثغور المسلمين  
ترجمہ :- اور یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت حسین علیہ السلام

نے عمر بن سعد سے کہا۔ میری طرف سے ایک بات اختیار کر لو۔ یا مجھے جہاں سے آیا ہوں وہیں واپس جانے دو۔ یا میں یزید کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ دیتا ہوں (بیعت کر لیتا ہوں) وہ میرے چچا کا بیٹا ہے۔ وہ میرے بارے میں خود فیصلہ کر لے گا۔ یا مجھے اسلامی سرحدوں میں سے کسی سرحد پر بھیج دیا جائے۔

(کتاب الشافی، ص ۴۴، مطبوعہ ایران)

او یاتی امیر المؤمنین یزید فیضع یدہ فی یدہ فیما  
یقینہ فیبتغہ فیری رایہ و فی ہذا الک وللامتہ  
صلاح۔

ترجمہ۔ (امیر فوجی دستہ سیدنا عمر بن سعد بن ابی وقاص نے حضرت حسینؑ کی پیش کردہ شرائط علیہ اللہ بن زیاد بن ابی سفیانؑ کو لکھ کر روانہ کیں۔ اور ان میں یہ شرط بھی تھی) یا وہ (حسینؑ) امیر المؤمنین یزیدؑ کے پاس چلے جائیں پس وہ اپنا ہاتھ اس (یزیدؑ) کے ہاتھ میں رکھ دیں۔

(بیعت کر لیں گے) اور پھر وہ ان کے معاملات میں جو کہ ان دونوں کے درمیان رہتے کوئی رائے قائم کر لے گا۔ اور اس شرط میں شہیرے (علیہ اللہ) نے خوشنوری اور امت کے لئے اصلاح ہے۔

(ناسخ التواریخ، ج ۴، ص ۲۳۷، کتاب روم، مطبوعہ ایران، بحوالہ خلافت معاویہ و یزید)

اوپر ایک اہل سنت اور دوشیعہ کی معتبر کتب کے  
 حوالے دیے گئے ہیں۔ اور درج بالا شرائط تمام کتب  
 میں درج ہیں۔ مگر آج کل عام طور پر ذاکرین و اعظین  
 اس تیسری شرط کا ذکر جس میں یزید کی بیعت کے لئے  
 آمادگی کے کیوں بھول جاتے ہیں۔ انہیں روز قیامت  
 کو اپنی اس شعوری یا غیر شعوری کوتاہی کے بارے  
 میں جواب سوچ لینا چاہیے۔ بہر حال حضرت حسینؑ کا  
 امیر المومنین یزید کی بیعت کے لئے آمادہ و تیار ہوتا  
 ایک طرف تو اسی مظلوم انسانیت عابد و زاہد صالح  
 و متقی۔ مجاہد و غازی۔ خوب صورت و خوب سیرت بہادر  
 و مدبر خلیفہ و امیر المومنین کے بارے میں یہود و مجوس  
 اور ان کے گماشتوں (شعوری یا غیر شعوری) کی طرف  
 سے پھیلائی گئی مبینہ فسق و فجور کی الف لیلالی داستانوں  
 کی تکذیب و تردید کرتا ہے۔ کہ اگر امیر یزیدؑ کے  
 کردار میں کسی قسم کا شرعی عیب ہوتا۔ یا اسلام کی  
 گاڑی پٹری سے اتر رہی ہوتی تو اس طرح آپ اپنے  
 اس مبینہ مشن کو (جو کہ روایت پرست ملاؤں اور  
 چالاک ذاکروں کے مطابق احقاقی حق اور البطلان  
 باطل تھا) ادھورا چھوڑ کر اسی خلیفہ و امیر المومنین  
 و سکت حق پرست پر بیعت کے لئے آمادہ و تیار  
 نہ ہوتے۔

آپ کا بیعت کے لئے تیار ہونا۔ دوسری طرف  
 یہ بات بھی واضح کرتا ہے کہ آپ ان کوئی غداروں  
 کے خطوط سے متاثر ہو کر حصول خلافت کے لئے کوفہ  
 جا رہے تھے جنہوں نے حضرت علیؑ کے شیعہ ہونے  
 کے حوالے سے آپ کو ہزاروں خطوط (جن میں اکثر  
 جعلی اور فرضی تھے) لکھ کر کوفہ بلایا تھا۔ اور جن میں  
 آپ کو خلیفہ تسلیم کرنے کا اور امداد و نصرت کا وعدہ  
 تھا۔ اور حضرت حسینؑ ان پر اعتماد کر کے عازم کوفہ ہو گئے  
 حالانکہ یہ ایک سازشی جماعت تھی۔ جو گورنر کوفہ صحابی  
 رسولؑ حضرت نعمان بن بشیرؓ کی نرم مزاجی سے فائدہ  
 اٹھاتے ہوئے حب اہل بیت (واضح رہے حقیقی اہل  
 بیت رسولؑ ازواج مطہرات ہیں) کے پردے میں  
 مسلمانوں کو پھر ہلے کی طرح جنگ و جدل اور خونریزی  
 میں مبتلا کرنا چاہتی تھی۔ تاکہ ان سے فارس کی تاراجی  
 کا انتقام لیا جاسکے۔ مگر جب بارگاہ خلافت سے  
 حضرت نعمان بن بشیرؓ کی تبدیلی اور بھتیجہ رسولؑ جناب  
 امیر علیؑ بن زیاد بن ابی سفیانؓ کا گورنر کوفہ کی  
 حیثیت تقرر عمل میں آیا۔ تو انہوں نے بغیر کسی خون  
 خرابہ کے چند دنوں میں کوفہ کے حالات کو درست  
 کر لیا۔ سازشی چمپے اپنی بلوں میں گھس گئے۔ اور مسلم  
 بن عقیلؓ کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے اسی ہزار جوان مرد

ہوا کے تنکوں کی طرح بکھر گئے۔ اور بیعت خلافت کر کے  
 خلافت کے بظاہر وفادار بن گئے۔ یاد رہے امیر علیؑ  
 بن زیاد اپنے ساتھ کوئی فوج بصرہ سے نہ لائے تھے۔  
 اور حضرت حسینؑ نے جب مسلم کا پیغام ملنے پر واپسی  
 کا ارادہ کیا تو مسلم کے بھائی بختیوں نے جو مسلم کے  
 قتل پر جوش انتقام سے مغلوب تھے۔ واپس ہونے  
 سے انکار کر دیا۔ آخر جب حسینؑ کوفہ کے قریب پہنچے  
 اور اہل حالات تک کو معلوم ہوئے۔ کہ کوئی امیر المومنین  
 یزید کی بیعت کر چکے ہیں بلکہ خطوط لکھنے والوں میں سے  
 کئی ایک امیر بن سعد بن ابی وقاصؑ کے فوجی دستہ میں  
 شامل ہیں۔ تو اس موقع پر حضرت حسینؑ نے اپنے حصول  
 خلافت کے مشن کو جسے وہ قتل مسلم کی تبریر ترک کر  
 چکے تھے۔ دوبارہ ترک کرنے اور امیر المومنین یزید  
 رحمۃ اللہ علیہ کی بیعت کرنے پر آمادگی ظاہر کرنے کا  
 اعلان فرمایا۔ یہ حضرت حسینؑ کی پاکیزگی و طہارت کا  
 ایک کھلا ثبوت ہے۔ علاوہ انہیں یہاں پہنچ کر آپ  
 کو مکہ سے کوفہ روانہ ہوتے وقت صحابہ کرام کی طرف  
 سے کوفہ نہ جانے کے مناسب مشوروں اور اپنی خطا  
 اجتہاد سے متعلق روانگی کوفہ کا بھی احساس ہو چکا تھا۔  
 اب ان پر واضح ہوا کہ امر خلافت قائم ہو چکا ہے اور  
 یہی ملت اسلامیہ بیعت خلافت کر چکی ہے تو انہوں نے

بھی اجماع امت میں شمولیت کا فیصلہ کر لیا اور اس کا اعلان مذکورہ بالا تینوں شرائط میں کر دیا۔ اور اس کے ساتھ ہی عین کربلا کے پختہ ہونے کے دوران ۱۱ھ میں بھی حضرت حسینؑ نے امیر یزیدؑ کی بیعت خلافت پر آمادگی ظاہر کر کے یہ ثابت کر دیا کہ وہ بھی امیر یزیدؑ کو اس وقت نیک و صالح تصور کرتے تھے۔ البتہ یہ دوسری بات ہے۔ کہ حضرت حسینؑ خود کو خلافت کا زیادہ حق دار خیال کرتے تھے۔

## براہرین محمد بن حنفیہ کی شہادت

حضرت حسینؑ کی الم تاک شہادت کے بعد جب عبداللہ بن زبیرؑ کے داعیوں نے مدینہ طیبہ اور مکہ مکرمہ میں شورش پیا کرنے کی کوشش کی تو اس وقت ان کے بعض کارندوں نے امیر یزیدؑ کے متعلق شراب نوشی اور ترک نماز کے جھوٹے الزامات لگائے۔ اور لوگوں کو امیر یزیدؑ کی بیعت توڑنے پر آمادہ کرنے لگے۔ اس وقت بزرگ تابعی حضرت محمد بن حنفیہؑ براہرینؑ اور حضرت عبداللہ بن عمرؑ شیخ صحابہؑ جیسے بزرگوں نے ان الزامات کی تردید کی اور نقض بیعت سے انکار کیا۔ ملاحظہ ہو۔

ولما رجع اهل المدينة من عند یزید مشی عبد اللہ



بن مطیع واصحابہ الی محمد بن الحنفیۃ فارادۃ علی  
 خلع یزید فابی علیہم۔ فقال ابن مطیع ان یزید یشرب  
 الخمر ویترک الصلوة ویتعدی حکم الکتاب  
 فقال لهم! ما رایت منه ما تذکرون۔ وقد حضرت  
 واقمت عنده۔ فرایتہ موافقا علی الصلوة۔ متعریا  
 للغیر یسأل عن الفقه ملاذما للسنۃ۔

ترجمہ :- جب اہل مدینہ نے امیر یزید کی بیعت سے  
 علیحدگی اختیار کر لی (سب نے نہیں) تو عبداللہ بن  
 مطیع اور ان کے ساتھی محمد بن علیؓ کے پاس آئے اور  
 انہیں امیر یزید کی نقض بیعت کے لئے کہا۔ تو انہوں  
 (محمد بن علیؓ) نے بیعت توڑنے سے انکار کر دیا۔  
 عبداللہ بن مطیع نے کہا۔ یزید شراب پیتا ہے۔ نماز  
 ترک کرتا ہے۔ قرآنی احکامات کی خلاف ورزی کرتا  
 ہے۔ تو محمد بن علیؓ نے عبداللہ بن مطیع اور ان کے  
 ساتھیوں سے کہا۔ تم جن باتوں کا ذکر کر رہے ہو۔  
 وہ میں نے امیر یزید میں نہیں دیکھی ہیں۔ حالانکہ میں  
 اس کے پاس گیا ہوں اور قیام کیا ہے۔ پس میں نے  
 اسے دیکھا کہ وہ نماز کا پابند ہے۔ بھلائی کے کاموں  
 میں جلدی کرنے والا ہے۔ (ایسے سے زیادہ عالم)  
 لوگوں سے دینی مسائل دریافت کرنے والا ہے۔ اور  
 سنت رسولؐ کو لازم پکڑنے والا ہے۔

(البدایہ والنہایہ، ج ۱۸، ص ۲۳۳-۲۳۴)

قد کان عبد اللہ عمرو بن الخطاب وجماعات اهل  
 بیت الثبوتة ممن لم ینقمن العهد - ولا یلیع احداً  
 بعد بیعة لیزید - كما قال الامام احمد - حدثنا  
 اسماعیل بن علیہ حدثنی صفوان بن جویریة عن  
 نافع - قال لما خلع الناس یزید بن معاویة جمع ابن  
 عمر بنیہ و اهلہ ثم تشهد ثم قال - اما بعد فاننا  
 بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله واني سمعت  
 رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الغادر ينصب له  
 لواء يوم القيامة يقال هذه عند رة فلان - وان من  
 اعظم الغدر ان يكون الاشرار بالله ان يبايع  
 الرجل رجلاً على بيع الله ورسوله ثم يكتسب بيعته  
 فلا يخلعن احد منكم یزید ولا يبرفن احد منكم  
 في هذا الا مرفيكون الفيل بيني وبينه -

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمرؓ اور اہل بیت نبوی  
 میں سے کسی نے بھی بیثاق بیعت کو نہ توڑا۔ اور نہ  
 ہی یزید کے بعد کسی اور سے بیعت کی۔ امام احمد اسماعیل  
 علیہ سے وہ صفوان بن جویریہ سے وہ نافع سے بیان  
 کرتے ہیں کہ جب لوگوں نے یزید بن معاویہؓ کی  
 بیعت توڑ دی۔ تو عبداللہ بن عمرؓ نے اپنے بیٹوں  
 اور اہل و عیال کو جمع کر کے خدا کی تعریف بیان کی۔

اور فرمایا کہ ہم نے اس شخص (یزید) کے ہاتھ پر اللہ  
 اور اس کے رسول کی بیعت کی ہے۔ اور میں نے  
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ قیامت  
 کے دن ہر عذار کے لئے ایک جھنڈا گاٹا جائے گا۔  
 اور کہا جائے گا کہ یہ فلاں شخص کی عذار کا نشان  
 ہے۔ اور اللہ کے ساتھ شرک کے بعد سب سے بڑا عذر یہ  
 ہے۔ کہ آدمی کسی کے ہاتھ پر بیعت خلافت کا عہد  
 باندھے خدا اور رسول کی بیعت کے طور پر اور  
 پھر اس بیعت کو توڑ دے۔ پس تم سے کوئی بھی یزید  
 کی بیعت نہ توڑے اور اس معاملہ میں تم میں سے  
 کوئی زیادتی نہ کرے۔ ورنہ میرے اور اس کے درمیان  
 علیحدگی ہو جائے گی۔

دالیدایہ والنہایہ، ج ۸، ص ۲۳۲،

مذکورہ بالا دونوں حوالہ جات سے یہ بات واضح  
 ہو کر سامنے آتی ہے۔ کہ ۳۵ھ میں رحبن کے بعد  
 امیر یزید صرف چند ماہ اور زندہ رہتے ہیں، بھی  
 وہ نمازی اور سنت رسول کے شیدائی اور صالح  
 انسان ہے۔ اور یہ گواہی خود حضرت حسینؑ کے اپنے  
 گھرانے کے فرزند اور ان کے برادر اصغر سے رہے  
 اور حادثہ کربلا کو تین سال ہونے کو آئے ہیں لیکن  
 محمد بن علیؑ برادر حسینؑ نہ تو امیر یزید کو قتل حسینؑ کا

ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ نہ ان کے فسق و فجور کی تائید کرتے ہیں نہ ان کے خلاف خروج کرتے ہیں۔ نہ خروج کرنے والوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ بلکہ ان کی طرف سے لگائے گئے الزامات کو اپنی چشم دید گواہی سے رو کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمرؓ شیخ صحابہؓ نہ تو نقض بیعت کرتے ہیں۔ بلکہ بیعت کو خدا اور رسولؐ سے باندھا گیا عہد قرار دے کر اس پر قائم رہتے ہیں۔ اور اپنے اہل و عیال کو واضح کرتے ہیں۔ کہ اگر ان میں سے کسی نے نقض بیعت کیا تو وہ اس سے قطع تعلق کر لیں گے۔ حالانکہ عبداللہ بن عمرؓ مقام و مرتبہ کے اعتبار سے حضرت حسینؓ سے بہت بلند و برتر ہیں۔ کسی بھی صحابی کا مقام و مرتبہ اس کے صحبت نبوی میں گزارا گئی مدت سے

کیا جانتے جا گفتگو سے یہ بات واضح ہو کر سامنے اب تک کی گفتگو سے یہ بات واضح ہو کر سامنے آچکی ہے کہ امیرین زید ایک صالح اور متقی انسان تھے میں نے یہ سب گزارشات اور گواہیاں سنیں گے حساب سے پیش کی ہے۔ اور یہ سب ان بزرگوں کی گواہیاں جن کو تمام مسلمان ثقہ اور اکابر امت تسلیم کرتے ہیں۔ ان کے مقابلہ میں سیاہیوں کی جھول اور بے سرو پا پھیلائی ہوئی غلط باتوں پر اعتماد کر کے امیر

یزید اور سیدنا معاویہؓ۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ اور دیگر صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرنا یا ان کی نیت پر شبہ کرنا کسی صحیح العقیدہ مسلمان کا کام نہیں ہے۔

یہاں در نوجوان امیر یزیدؓ میں شجاعت و بہادری

کی صفات بھی بدرجہ اتم موجود تھیں۔ چنانچہ جہادِ قسطنطنیہ میں امیر یزیدؓ نے وہاں پہلے دیکھے گئے کہ لوگوں نے انہیں بے ساختہ فتح العرب یعنی "عربوں کا بہادر نوجوان" کے خطاب سے نوازا۔ چنانچہ امیر یزیدؓ کے اس خطاب کو تو پیزوفیسر حتی نے بھی تسلیم کیا ہے۔

رحمۃ اللہ علیہ، ہسٹری آف دی عربس

اہل قسطنطنیہ کو ڈانٹ

جب حضرت ابوالیوب انصاریؓ کی وصیت

کے مطابق امیر یزیدؓ رحمۃ اللہ علیہ ان کی نعش مبارک کو لے کر قسطنطنیہ کی قیصل تک پہنچے۔ اور وہاں انہیں دفن کیا۔ رومیوں نے قبر کی بے حرمتی کرنے کے بارے میں کچھ کہا۔ تو اس وقت امیر المومنین یزیدؓ رحمۃ اللہ علیہ نے رومیوں سے جو بہادرانہ خطاب کیا تھا۔ وہ ایک شیعہ مورخ کی زبانی سینے۔

یا اهل القسطنطنیہ هذا اجل من اکابر اصحاب محمد نبینا وقد دفنا حیث ترون ووالله لن نقرضتم

لہ لادھ من کل کنیۃ فی الارض الاسلام ولادینوب  
ناقوس بادھن العرب ابدۃ ا۔

رناخ التوارخ ج ۲، ص ۴۴، کتاب دوم  
ترجمہ: اسے اہل قسطنطنیہ یہ آدمی ہمارے بنی محمد صلی  
اللہ علیہ وسلم کے بزرگ ساتھیوں میں سے ہے۔  
جسے ہم نے یہاں دفن کیا ہے۔ جو تم دیکھ رہے ہو۔  
اور خدا کی قسم اگر تم نے ان کی قبر کی بے حرمتی کی  
تو اسلامی دنیا میں تمہارے ہر گرجا گھر منہدم کر دیا  
جائے گا۔ اور پھر عرب کی سرزمین میں کبھی ناقوس  
نہیں بجے گا۔

جب حضرت حسن  
رضی اللہ عنہ کا

## فضاحت و بلاغت

انتقال ہوا۔ اور یہ خیر و مشق پہنچی۔ تو حضرت امیر معاویہ  
نے حضرت عبداللہ عباس سے تعزیت کی۔ چنانچہ  
ان کے بعد امیر یزید آئے۔ اور انہوں نے حضرت  
عبداللہ بن عباس سے ایسی فصیح و بلیغ زبان میں تعزیت  
کی کہ انہیں تعجب ہوا۔ اور جب امیر یزید چلے گئے  
تو عبداللہ بن عباس نے فرمایا۔

فلما انھض یزید من عندہ قال ابن عباس اذا  
ذهب بنو حرب ذهب علماء الناس۔

ترجمہ: جب یزید ان کے پاس سے اٹھے گئے تو

حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے فرمایا۔ جب بنو حرب  
(آل ابوسفیانؓ) اٹھ گئے تو لوگوں کے علماء اٹھ جائیں  
گئے۔

البدایہ والنہایہ، ج، ۸، ص ۲۲۸،

خطیب و شاعر  
امیر المومنین بہترین خطیب  
و شاعر تھے۔ فحش گوئی

سے کوئی واسطہ نہ تھا۔ اس سلسلہ میں جاو و وہ جو  
کر بولے۔ ایک شیعہ مصنف کی زبانی۔ ملاحظہ ہو۔  
کان یزید بن معاویۃ خطیباً مشاعراً۔ وکان اعرابی  
اللسان بدوی اللہجۃ۔

ترجمہ۔ یزید بن معاویہؓ خطیب و شاعر تھے۔ ان کی  
زبان اعرابی تھی اور لہجہ بدوی تھا۔  
(ابن ابی الحدید، ج، ۳، ص ۲۸۴)

امور سلطنت میں مہارت  
امیر یزیدؓ  
و کرم اور شعر

و شجاعت جیسی صفات جمیلہ کے ساتھ امور سلطنت  
سے خوب واقفیت رکھتے تھے۔ ملاحظہ ہو۔ حافظ  
ابن کثیر رقمطراز ہیں۔

وقد کان یزید فیہ خصال محمودۃ من الکرم  
والعلم والفضاحة والشعر والشجاعة وحسن الوک  
فی الملک وکان ذا جمال حسن المعاشرة۔

ترجمہ اور یزید کی ذات میں قابل ستائش صفات  
مع تھیں۔ وہ علم و کرم، فصاحت و شعر گوئی اور شجاعت  
یہادری کے ساتھ ساتھ امور سلطنت میں عمدہ رائے  
رکھتے تھے۔ اور خوب صورت و خوب سیرت تھے۔

البدایہ والنہایہ، ج ۸، ص ۲۳۳

حکمرانی کا تصور  
امیر المومنین یزید رحمۃ اللہ  
علیہ کے پیش نظر سیدنا عمرؓ

فاروق امام ثانی کا دور تھا۔ وہ انہیں اپنا آئینہ نظر  
کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہؓ نے  
اس بارے میں امیر یزیدؓ سے دریافت فرمایا تو اس  
ہو نہار اور لائق فرزند نے جو جواب دیا وہ مشہور  
مورخ و محقق حافظ ابن کثیرؒ کی زبانی سینے۔

ان معاویۃ قال لیزید کیف تراءک فاعلذ ان  
ولیت۔ قال یمتع اللہ بک یا امیر المومنین۔ قال  
لتخبرنی قال کنت واللہ یا اباہ عاملا فیہم عمل  
عمر بن الخطاب فقال معاویۃ سبحان اللہ یا بنی  
واللہ لقد جہدت علی سیرۃ عثمان فما اطلقتها  
فکیف بک وسیرۃ عمر؟

ترجمہ۔ حضرت معاویہؓ نے یزیدؓ سے کہا۔ اگر میں  
تمہیں والی بنا دوں تو تم کس طرح حکمرانی کرو گے۔ یزیدؓ  
نے کہا۔ اے امیر المومنین اللہ علیہم آپ سے نفع پہنچا۔



امیر معاویہؓ نے فرمایا۔ تم مجھے بتاؤ۔ اس پر زیدؓ نے کہا  
 اسے ابا جان۔ خدا کی قسم میں لوگوں کے ساتھ وہ عمل  
 کروں گا۔ جو عمرؓ بن خطاب نے کیا تھا۔ حضرت امیر  
 معاویہؓ نے فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اسے بیٹے میں نے  
 سیرۃ عثمان پر چلنے کی کوشش کی مگر میں اس کی پیروی  
 نہ کر سکا۔ پھر تو کس طرح سیرۃ عمرؓ کی پیروی کر  
 سکے گا۔

(البدایہ والنہایہ، ج ۸، ص ۲۲۹)

اب تک کی گزارشات سے یہ بات بخوبی واضح  
 ہو چکی ہے کہ امیر زیدؓ ایک متقی و صالح خوب صوت  
 خوب سیرۃ اور مجاہد و غازی۔ حاجی و امیر الحجاز۔ نمازی  
 و امام الصلوٰۃ۔ فصیح و بلیغ۔ خطیب و شاعر اور امور سلطنت  
 و جہان بینی سے واقف نوجوان تھے۔ جنہیں امیر معاویہؓ نے  
 صحابہؓ کے مشورہ سے پدری شفقت سے بالآخر ہو کر  
 امت کی فلاح و بہبود کی خاطر ایک عظیم الشان رفیق  
 کے بعد ولیعہد نامزد کیا تھا۔ اور یہ نامزدی نہ نئی تھی۔  
 اور نہ ہی خلاف اسلام تھی۔ اس کی نظیر ابو بکرؓ و عمرؓ اور  
 علیؓ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طرز عمل سے ملتی ہے  
 جیسا کہ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے۔

مسلمانوں کی بڑی تعداد اور علماء کی ایک جماعت  
 دن رات امیر المؤمنین زیدؓ رحمۃ اللہ علیہ کے فرضی اور

ساختہ فسق و فجور کے افسانے بیان کر کے لوگوں  
 ہی غلط راہ ڈال کر خود گناہ گار ہوتے ہیں۔ اور  
 یوں کو بھی گناہ گار کرتے ہیں۔ کیونکہ اگر کسی شخص  
 ایسی برائی بیان کی جائے۔ جو اس میں موجود نہ ہو  
 بیان کرنے والے کے سر پر گناہ رہ جاتا ہے۔  
 نے جو کچھ سطور بالا میں پیش کیا ہے وہ نہ  
 نے پاس سے پیش کیا ہے اور نہ نیا پیش کیا  
 ہے۔ یہ سب کچھ معروف و معتبر کتب اہل سنت  
 اہل تشیع سے پیش کیا ہے۔ میں علماء حضرات و قارئین  
 ام سے توقع رکھتا ہوں۔ کہ وہ میرے پیش کردہ  
 اد میں کوئی غلطی پائیں تو مجھے اس سے مطلع فرمائیں  
 ان کا دل سے شکر گزار رہوں گا۔ میں اہل علم  
 ماء سے درخواست کروں گا۔ کہ وہ ان باتوں کو  
 رست پائیں۔ تو روایت پرستی کے خول سے نکل  
 مصلحت کوئی کو خیر باد کہہ کر قوم کو اصل حقائق  
 سے آگاہ کریں۔ سبائیت ریڈیو۔ ٹیلیویشن اور روزنامہ  
 خبارات کے ذریعے حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے  
 میں دن رات مصروف ہے۔ انہوں نے بڑی  
 شہساز سے امیر المؤمنین یزید کی ذات کو نشانہ  
 بنا کر اس دور خیر القرون میں موجود صحابہ و تابعین  
 نظام کو مصلحت کوئی بزدل ڈرپوک بندہ سیم و زر


اور باطل پرست ٹھہرایا ہے۔ اور کم علم اہل سنت  
 اور ان کے روایت پرست علماء بھی ان کی ہاں  
 میں ہاں ملائے چلے جا رہے ہیں۔ گویا وہ اغیار  
 کے پھیلائے ہوئے جال میں خود بھنس چکے ہیں سب  
 اگر صحابہؓ کو کھلے بندوں برا بھلا کہتے ہیں۔ تو مجاہد  
 یہ نادان دوست وہی کام بالواسطہ انجام دے رہے  
 ہیں۔ کیونکہ یزید اگر ظالم ہے۔ فاسق و فاجر ہے۔  
 شرابی و سیاہ کار ہے۔ (نعوذ باللہ من ہذا الخرافات  
 اللوہیہ) تو ان کے ہاتھ پر بیعت ولی عہدی کرنے  
 والے اور پھر بیعت خلافت کرنے والی ام المومنین  
 سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہا متوفی ۵۴ھ۔ ام المومنین  
 سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا متوفی ۵۸ھ۔ ام المومنین سیدہ  
 ام سلمہ رضی اللہ عنہا متوفی ۵۹ھ۔ ام المومنین سیدہ میمونہ  
 رضی اللہ عنہا متوفی ۶۱ھ۔ سعد بن ابی وقاص متوفی  
 ۵۹ھ۔ سیدنا سعید بن زیدؓ ۶۵ھ۔ اصحاب عشرہ مبشرہ  
 حضرت جابر بن عبد اللہ انصاریؓ ۶۸ھ۔ حضرت  
 سائب بن خالد انصاریؓ ۶۸ھ۔ حضرت شدا بن اوس  
 انصاریؓ۔ حضرت ربیعہ بن کعبؓ اسلمی ۶۳ھ۔ حضرت  
 جابر عتیک انصاریؓ ۶۸ھ۔ حضرت ابو اسید مالک بن  
 ربیعہ انصاریؓ ۶۸ھ۔ حضرت عمر بن امیہؓ ۶۸ھ۔  
 اصحاب یزید ان کے علاوہ بارہ اور اصحابؓ بدر

اسی طرح چودہ صحابہ بیعت رضوان میں شمولیت حاصل  
 کرنے والے اور دیگر دو صد تئیس<sup>۱۳۳</sup> اصحاب رسول  
 سب کے سب باطل کے  
 طرفدار اور حق سے صرف نظر کرنے والے ٹھہرتے  
 ہیں۔ جبکہ جملہ امہات المؤمنین۔ اصحاب بدر۔ اصحاب  
 عشرہ مبشرہ و اصحاب بیعت رضوان مقام و مرتبہ  
 میں حضرت حسینؑ سے بدرجہا مقام بلند پر فائز ہیں۔  
 اور جب ہم یہ کہتے ہیں۔ کہ کربلا کا حادثہ معرکہ حق  
 و باطل ہے۔ تو گویا ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ کہ  
 یہ اسلام و کفر کے درمیان لڑائی ہے۔ یا پھر اور جھوٹ  
 کے درمیان لڑائی ہے۔ اس طرح ہم خود اس وقت  
 کی پوری ملت اسلامیہ بشمول مذکورہ بالا اصحاب و  
 ازواج رسولؐ کو یا تو کھلم کھلا کفر اور جھوٹ کا حامی  
 کہہ رہے ہوتے ہیں۔ یا پھر اس معرکہ میں انہوں نے  
 جو خاموشی اختیار کر لی تھی اور حضرت حسینؑ کا ساتھ  
 نہ دیا تھا۔ انہیں اس طرح بالواسطہ باطل کا حامی  
 و طرفدار گردانتے ہیں۔ اور یہ دونوں باتیں غلط  
 اور خلاف واقع ہیں۔ نہ حضرات صحابہ کرام اور امہات  
 المؤمنین کی ذوات قدسیہ ایسی تھیں کہ وہ ایسے موقع  
 پر خاموش رہ سکتیں۔ نہ ہی وہ کسی فاسق و فاجر یا  
 نعوذ باللہ غلط کار امیر کی بیعت پر آمادہ و تیار ہوتیں

جبکہ شہادت عثمان رضی اللہ عنہ کے موقع یہ پاکیزہ  
 ہستیاں میدان میں آچکی تھیں۔  
 بات صرف اسی قدر ہے کہ رسول اللہ سے قرآن  
 کی بنیاد پر نبوہ ہاشم کے ذہن یہ خیال پیدا ہو چکا  
 کہ خلافت پر ان کا استحقاق فائق ہے۔ اور یہ ان  
 کی اجتہادی خطا تھی۔ اسی خیال و خواہش سے فائدہ  
 اٹھاتے ہوئے کوفیوں نے آپ کو کوفہ کے باہر  
 میں غلط اور گمراہ کن صورت حال بنا کر کوفہ آگے  
 پر آمادہ کر لیا۔ مگر منتظم گورنر کے آگے  
 کے بعد اس حمایت و نصرت کے وعدہ سے  
 گئے۔ اور جب حضرت حسینؑ کو کوفہ کے قریب پہنچ کر اصل صورت  
 حال سے واقف ہوئے تو انہوں نے ایک نیک فطرت  
 صالح پسران کی طرح امیر بیزینڈ کی بیعت کرنے  
 کے لئے شام جانے کی پیشکش کی۔ جسے  
 قبول کر لیا گیا۔ مگر آل ابی طالب کے ساتھ  
 والے ساتھ کوفیوں نے اور عمر بن سعد کے  
 دستہ میں موجود درپردہ سازدشیوں نے  
 دیکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ بخیر خولی شام  
 پہنچ کر سازدشیوں کو بے نعتاب کر دیے  
 گئے۔ اور وہ اس طرح اپنے جرم کی نذر  
 پائیں گے۔ تو انہوں نے کوفہ سے چار منز

پرسے شام کے راستے پر ایک سازش  
 کے تحت ہنگامہٴ قتال برپا کر دیا  
 اور اس میں حضرت حسین  
 رضی اللہ عنہ کو شہید  
 کرنے میں کامیاب  
 ہو گئے۔

تفصیلات کے لئے دوسری کتاب کا انتظار رہی  
 جائے۔  
 وما علینا الا البلاغ۔



کتابت طباعت کے لیے **محمد علی**  
 پرنٹنگ ایجنسی  
 ۱۱۴ الفضل مارکیٹ

کتبہ حافوظ الثبیر احمد سجاد  
 دارالعلوم محمدیہ اندرون  
 پرانا اڈہ لاریاں شیخوپورہ

## کتابیات

## نمبر شمار

|  |    |
|--|----|
| قرآن مجید                                | ۱  |
| بخاری شریف                               | ۲  |
| مسلم شریف                                | ۳  |
| ابوداؤد شریف                             | ۴  |
| مشکوٰۃ شریف                              | ۵  |
| ترمذی شریف                               | ۶  |
| ارشاد الساری                             | ۷  |
| البدایہ والنہایہ                         | ۸  |
| طبری                                     | ۹  |
| طیقات ابن سعد                            | ۱۰ |
| مروج الذهب                               | ۱۱ |
| منہاج السنۃ                              | ۱۲ |
| اسد الغابہ فی معرفتہ المحابہ             | ۱۳ |
| تاریخ اسلام از شاہ معین الدین ندوی       | ۱۴ |
| تہذیب التہذیب                            | ۱۵ |
| مقتل الحسین - ابی مخنف                   | ۱۶ |
| تاریخ مسلمانان عالم از قاری احمد علی بیگ | ۱۷ |
| ہسٹری آف بیرسینز از جسٹس امیر علی        | ۱۸ |
| تاریخ اسلام و المسلمین                   | ۱۹ |
| از مسعود احمد بی - ایس سی                |    |

| کتابیات                      | نمبر شمار |
|------------------------------|-----------|
| الانساب والاشراف             | ۲۰        |
| کتاب الشافی                  | ۲۱        |
| تاریخ التواتر                | ۲۲        |
| ہسٹری آف دی عربز             | ۲۳        |
| ابن ابی الحدید               | ۲۴        |
| نیج البلاغہ                  | ۲۵        |
| جلاء العیون                  | ۲۶        |
| حلاقت معاویہ ویزید           | ۲۷        |
| الفاروق                      | ۲۸        |
| جوامع السیرة                 | ۲۹        |
| عون المعبود شرح ابوراؤد شریف | ۳۰        |



# اختلافِ اُمتِ المَدِیْنِہ

حضرت صدیقِ شہید نے ایک حنفی بریلوی گھر میں آنکھ کھولی، اور پھر وہ ایک طویل سفر کے بعد مسلکِ کتاب و سنت اختیار کیا۔ تو کیوں؟ اس کتاب میں سنجیدہ تقابلی جائزہ پیش کیا گیا۔ قیمت :- ۴۲/- روپے

# حقیقتِ شیعہ

شیعہ مذہب کیا ہے؟ اس کی ابتدا کیسے ہوئی؟ درجہ بدرجہ اس میں کیا تبدیلیاں آئیں۔ شیعہ فرقہ کے ائمہ کرام کے ساتھ اہل تشیع کا کیا سلوک رہا۔ شیعہ کتب کی روشنی میں۔ قیمت :- ۵۰/- روپے

# القول المقصود

یہ وہ رسالہ ہے جس کی بنیاد پر حضرت صدیق شہید پر جو ہر آباد میں مقدمہ قائم ہوا۔ آپ نے اپنے حق میں دلائل سے کہ عدالت سے بریت حاصل کی۔ مگر صرف چھ دن بعد شہید کر دیئے گئے قیمت ۱۰/- روپے

# بنات الرسول

صدیق شہید کی بنات الرسول کے موضوع پر شیعہ علماء مولوی محمد بشیر انصاری آف ٹیکسلا، مولوی محمد اسماعیل مناظر شاہ سید ظہور الحسن کوثر، مولوی مرزا یوسف حسین لکھنوی سے جو تحریری خط و کتابت ہوئی۔ اور جس نے دنیا پر شیعہ کو لا جواب کر دیا۔ اب بنات الرسول کی شکل میں حاضر ہے۔ قیمت ۲۰/- روپے

# ماہِ محرم اور موجودہ مسلمان

سانحہ کو یاد میں تصور دار کونے، حضرت حسینؑ یا امیر المومنینؑ زیدؑ، اگر دونوں مظلوم ہیں تو ظالم کون ماہِ محرم اور موجودہ مسلمان کا مطالعہ آپ کو واضح کریگا

قیمت - ۹۱ روپے

## ایرانی انقلابِ شیعہ اور خمینی

ایرانی انقلاب کی غرض و غایت کیا ہے؟  
صحابہؓ کے بارے میں شیعہ عقائد و نظریات کیا ہیں  
کیا شیعہ اپنے بارہ آئمہ کو انبیاء سے بلند سمجھتے ہیں  
شیعہ انقلاب اور خمینی کیا ہیں؟ قیمت - ۲۵/۰

# مولانا محمد صادق سیالکوٹی کی

## شہرہ آفاق تصانیف

- |                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| ۱۶۔ رحمت عالم کی دعائیں           | ۱۔ صلوة الرسول         |
| ۱۷۔ انوار الزکواۃ                 | ۲۔ جمال مصطفیٰ         |
| ۱۸۔ صد احادیث                     | ۳۔ انوار التوحید       |
| ۱۹۔ تجلیات رمضان                  | ۴۔ ریاض الاخلاق        |
| ۲۰۔ سرور عالم کا پیغام آخری       | ۵۔ ضرب حدیث            |
| ۲۱۔ شان رب العالمین               | ۶۔ سید الکونین         |
| ۲۲۔ ساتی کوثر                     | ۷۔ قرآنی شخصیتیں       |
| ۲۳۔ جماعت مصطفیٰ                  | ۸۔ حزب الرسول          |
| ۲۴۔ نماز جنازہ                    | ۹۔ جماعت مصطفیٰ        |
| ۲۵۔ لبثان الاربعین                | ۱۰۔ اعجاز حدیث         |
| ۲۶۔ ارشادات شیخ عبد القادر جیلانی | ۱۱۔ قرآنی شمعیں        |
| ۲۷۔ مقام والدین                   | ۱۲۔ اصلاح معاشرت       |
| ۲۸۔ بیاض الاربعین                 | ۱۳۔ مسلمان کا سفر آخرت |
| ۲۹۔ قنبدیہ حج                     | ۱۴۔ عالم عقیدہ         |
| ۳۰۔ نماز مقبول مع نورانی نماز     | ۱۵۔ سبیل الرسول        |
|                                   | ۱۶۔ حج مستنون          |

حضرت پیر تنگ چینی

مہرِ مستم کی اعلیٰ طباعت کتابت کیلئے

یہاں تشریف لائیں

بفضل مارکیٹ کمرہ 16 اردو بازار لاہور

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DATA ENTERED

# مسئلہ ولی عہد

مترجمہ  
محمد ادریس ہاشمی ایم اے

ناشر

مکتبہ بریلو گارمعاویہ

بھوک مدینہ، المدد پاک کالونی، رانی روڈ، لاہور